

اُو اسی خُداوند خُدا دے سلمنے حاضر ہندے آں تاں پئی اُج دے سارے ویلے دے لئی اوہدے
توں مدد حاصل کر سکئیے۔ اُو اسی دُعا منگئیے:

خُداوند زمین اُسمان دے مالک مسیح یسوع دے وچ ساڈے اُسمانی باپ اسی سارے دل توں
تیرا شکر ادا کردے آں پئی تُو بھلا این تے تیری شفقت ابدی اے۔ اسی تیری محبت، تیرے
پاک روح تے تیرے پاک کلام دے لئی تیرا شکر ادا کردے آں۔ اسی اوہناں ساریاں نعمتاں
دے لئی تیرا شکر ادا کردے آں جیہڑیاں ساڈی جیاتی دے وچ تیرے پیار دا ثبوت نے، تے
ایس بلاوے دے لئی وی پئی تُو سانوں دھیماں تے پتر ہون دا حق بخشیا اے۔ بخش ساڈیاں
منناں نوں کھول پئی اسی تیرے پاک کلام نوں سکھدیاں ہوئیاں سمجھ سکئیے۔ اسی شکر کردے
آں پئی تُو ساڈے نال نرمی دے نال گل بات کردا این تے تُو ساڈی لوڑ توں وہد کے سانوں مہیا
کردا این۔ اسی تیرے پاک کلام دے لئی شکر ادا کردے آں جیہڑا ساڈی روح دی خوراک اے
تے ساڈی جیاتی دے لئی راہنمائی اے۔ بخش پئی اسی تیرے وچ اگے وہد سکئیے تے تیرے لئی
خُوشی تے شادمانی دا سبب بن سکئیے۔ اسی اپنے رہن سہن تے جیاتی بسر کرن دے طریقے
دے نال تیرے نال دے جلال دا سبب بن سکئیے۔ اسی اُج دے ایس ویلے دے لئی تیرے
توں ای برکت منگدے آں تے ایہہ سارا کجھ تیرے سوہنے پتر ساڈے خُداوند یسوع مسیح دا
نال لیندیاں ہوئیاں منگدے آں آمین۔

اسی کجھ چر توں زبوراں دے بارے گل بات کردے پئے آں تے ایس ویلے اسی پنجویں زبور تے
آں۔ ایہنوں باقاعدہ طور تے شروع کرن توں پہلاں میں پکھلیاں کجھ زبوراں دے تعلق دے
نال کجھ گلاں نوں دوہرانا چاہندا آں جنناں دے اُتے اسی پہلاں دھیان کیتا سی۔

ساریاں توں پہلاں اسی پہلے زبور دے اُتے دھیان کیتا سی تے اسی جمدے وچ اک مبارک
بندے دے بارے گل کیتی گئی اے تے آکھیا گیا اے پئی او اک ایویں دے رُکھ دے وانگر
اے جیہڑا پانی دیاں ندیاں دے نیرے لگایا گیا اے۔ تے ایہہ پانی دیاں ندیاں اوہدے وچ پائی
جاون والی ہمیشہ دی جیاتی ول نوں اشارہ کردیاں نے۔ اوہدی بُنیاد مُنظبوط اے تے او اپنے
ویلے تے پھل دیندیاں ہوئیاں اطمینان دی جیاتی بسر کردا اے۔ ایویں اک اجھی جیاتی بسر
کردیاں ہوئیاں اسی خُدا دے پیار تے اوہدے فضل دے وچ وہدے جاندے آں تے اوہدے
وچ ترقی کردے آں۔ تئسی بہت ای چھیتی وہدے او تے ایہہ تہاڈے پھلدار ہون دا ثبوت
اے۔ تئسی خُدا دے فضل تے اوہدے کلام دے وچ مضبوطی دے نال قائم او تے اوہدے وچ
وہدے جاندے او۔ ایویں پہلا زبور خُدا دے وچ قائم بندے دی جیاتی دی عکاسی کردا اے تے
ایہہ بیان کردا اے پئی جے کوئی بندہ خُدا دے وچ قائم اے تے او اک بھر پور جیاتی بسر کردا
اے۔

ایہدے باہجوں اسی دوجے زبور بارے گل کیتی سی جمدے وچ سانوں خُدا دی بادشاہت دا ذکر
دیکھن نوں بلدا اے۔ ایہہ اک بہت ای اہم زبور اے جمدے وچ سانوں خُدا دے پتر یسوع

مسیح دا ذکر وی ویکھن نوں بلدا اے۔ ایہدے وچ لکھیا ہویا اے پئی میں تے اپنے بادشاہ نوں
اپنے کوہ مقدس اُتے بٹھا چکیا آں۔ ایہدے وچ خُدا تے اوہدے مسیح دا بیان پایا جاندا اے۔ تے
اسی ایہدے وچ خُدا دے ولوں اوہدیاں لوکاں دی عدالت دے بارے وی ویکھدے آں۔ پہلے
زبور دے وچ اسی خُدا دے ولوں اک مُبارک بندے نوں عطا کیتی گئی جیاتی اُتے دھیان کیتا
سی تے دوجے زبور دے وچ اسی خُدا دے اختیار دے بارے دے وچ ویکھیا اے۔ ایس زمین
دے اتے جیہڑا بندہ وی کجھ اختیار رکھدا اے او خُدا دے اختیار دے پٹھاں اے تے خُدا
اوہنوں ویکھدا اے۔

ایہدے باہجوں اگے وہدیاں ہوئیاں اسی تیجے زبور دے اُتے دھیان کیتا سی تے ویکھیا سی پئی
داؤد اپنے پتر ابی سلوم دی وجہ توں اپنا تخت تے اپنا شہر چھڈ کے نس جاندا اے۔ تے اوہنوں
اک وہڈی مُصیبت دا سامنا کرنا پیندا اے۔ تے اپنی ایس حالت دے وچ ای او خُدا دے اگے
اپنی درخواست نوں رکھدا اے۔ ایویں اسی تیجے زبور دے وچ اسی سکھدے آں پئی بھاریں جے
اسی بہت زیادہ خطرناک صورتِ حال دے وچ گرفتار ہوئے خُدا سانوں بحال کرن دے قُدرت
رکھدا اے۔ اسی اپنی جیاتی دے اُتے غور کرد آں تے ایس گل نوں محسوس کردے آں پئی اسی
بہت ای گناہگار آں۔ پر بہت وہڈی تسلی دی گل ایہہ ہے پئی خُدا اُج وی ساڈیاں جیتیاں
دے وچ شامل ہونا چاہندا اے۔ او سانوں تبدیل کرنا چاہندا اے تے او ایویں ساڈی مدد کردا
اے۔

جدوں اسی چوتھے زبور دے ول نوں وہدے آں تے اسی ویکھدے آں پئی کئی واری ایویں ہندا
اے پئی اسی کسے مُشکل دے وچ پے جاندے آں۔ اسی کوئی پاپ نہیں کیتا ہندا اے پر لوکاں
دے ولوں سانوں ایہہ سُننا پیندا اے پئی ضرور ایہناں نے کوئی پاپ کیتا اے جہدی وجہ توں
ایہناں دے اُتے ایہہ مُصیبت آئی اے۔ پر اصل وچ ساڈے اُتے آون والی ایس مُصیبت دا
تعلق ساڈے کسے پاپ دے نال نہیں ہندا اے۔ سگوں ایہدے اُلٹ خُدا دا منصوبہ کُجھ ہور
ہندا اے۔ او ایس حالت دے وچ وی ساڈی جیاتی دے وچ کم کردا ہندا اے۔ پر لوک ایس
گل نوں سمجھے بغیر ای ساڈے خلاف گلاں کردے ہندے نے پئی اسی خطاکار آں تے اسی ضرور
کوئی وہڈا پاپ کیتا اے جہدی وجہ توں خُدا نے ساڈے اُتے ایہہ مُصیبت گھلی اے۔ پر زبور
نویس اوہناں نوں جواب دیون دی بجائے اوہناں دیاں ساریاں گلاں نوں خُدا دے اگے رکھ
دیندا اے تے اوہدے توں مدد دے لئی منت کردا اے۔ او اپنیاں ویریاں دیاں گلاں دی وجہ
توں پریشان اے، اوہدے ویری اوہنوں ناحق دُکھ دیندے نے تے اوہنوں ستاوندے نے۔ او
اپنا بھروسہ خُدا دے اُتے رکھدا اے تے اپنی کُکم دے لئی خُدا نوں ای پُکاردا اے کیوں جے
ہُن لوکی آکھدے نے پئی خُدا دے ولوں اوہدی کُکم نہ ہونے گی۔ پر جدوں او خُداوند اپنے خُدا
توں تسلی پاوندا اے تے او اپنے اندر پائے جاون والے اوس الہی اطمینان دا اظہار کردا اے،
تے او اوہناں لوکاں دے نال مخاطب ہندا اے جیہڑے اوہنوں دُکھ دیندے نے تے اوہدے
خلاف گلاں کردے نے۔ او خُدا دے اُتے اپنے کامل توکل دا اظہار کردا اے، ایہدے نال نال

سانوں صداقت دیاں قربانیاں دا ذکر وی بلدا اے۔ ایس زبور دے وچ پائے جاون والے لفظاں توں ایویں لگدا اے پئی ایہدے وچ تے ایہدے توں پہلے زبور دے وچ اک ای طرح دے حالت پائے جاندا ہے۔ پر سب توں اہم گل ایہہ ہے پئی او ہر طرح دے حالات دے وچ اپنا توکل خداوند اپنے خدا دے اُتے رکھدا اے۔

تے ہُن ویلا اے پئی اسی اگے وہدیے تے اپنی راہنمائی دے لئی پنجویں زبور دے اُتے دھیان کریے تے دیکھئیے پئی ایہدے وچ خدا کیویں ساڈی راہنمائی کردا اے۔

زبور پنج دے وچ اسی دیکھدے آں پئی ایتھے وی زبور نویں نوں اپنیاں ویریاں دا ای سامنا اے پر ایتھے سانوں واضح طور تے اوہدے ویریاں دے بارے دے وچ کجھ دیکھن نوں نہیں بلدا اے۔ پئی او کون لوکی نے جیہڑے اوہدے لئی ایس مُصیبت دا سبب بنے ہوئے تے۔ تے اوہناں دے ای سببوں او خدا دے سامنے اپنی فریاد پیش کردا پیا اے۔ تے او خدا نوں آکھدا اے پئی تُو میری مدد کرتے میریاں ویریاں نوں برباد کر۔

ایس زبور دے وچ زبور نویں خدا نوں اک حاکم دے طور تے بلاوندا پیا اے تے او اوہنوں کجھ کرن نوں آکھدا پیا اے۔ او خدا دے سامنے کجھ کماں نوں رکھدا اے تے آکھدا اے پئی او میری خاطر ایہہ کرے۔ جیویں پئی اسی دیکھدے آں پئی او خدا نوں آکھدا اے پئی او اوہدیاں ویریاں دی عدالت کرے۔ او چاہندا اے پئی شریر اوہدے معاشرے دے وچوں فنا ہو جاوون تے خدا اوہناں نوں باہر کڈھ کے سٹ دیوئے۔ ایویں او بیان کردا اے پئی راستباز دے لئی

خُدا دے حضور دے وچ شادمانی پائی جاندى اے پر خُدا شيرايں دى عدالت كرے گاتے
اوہناں نوں اوہناں دے کیتے دے مطابق سزا دیوئے گا۔

تے آو اسی اپنی راہنمائی دے لئی ہور کجھ گلاں دے اُتے دھیان کر دے آں۔ مینوں اُمید اے
پئی تہاڈے وچوں ہر اک دے کول ایس زبور دا تحریری خاکہ پایا جاندا اے جہدی لو دے وچ
اسی ایس زبور اُتے دھیان کراں گے۔

پہلے صفحے دے وچ ایس زبور دا عبرانی زبان دے وچوں کیتا گیا ترجمہ وی پیش کیتا گیا اے۔
جنوں میں تہاڈے لئی کیتا اے تاں پئی اسی چنگی طرح دے نال سمجھ سکئیے پئی او کیہڑے
لفظ نے جنناں دے اُتے ایہدے وچ بہتا زور دتا گیا اے۔ یاد رکھو پئی ایہدے وچ ساڈے
کول لفظاں دی ترتیب کجھ فرق پائی جاندى اے۔

تے آو اسی باقاعدہ طور تے ایہنوں خُدا دے پاک کلام دے وچوں پڑھدے آں جتھے ایویں لکھیا
ہویا اے:

میرِ مُغنی دے لئی بانسلیاں دے نال داؤد دا زبور

(میریاں گلاں نوں سُن اے میرے خُدا)

اے خُداوند میریاں گلاں دے اُتے دھیان کر!

میریاں ہاواں تے دھیان کر!

(او اپنی عرضِ نون شروع دے وچ ای خُداوند اپنے خُدا دے حضور دے وچ پیش کر دیندا
اے تے آکھدا اے پئی اے میرے خُدا میریاں گلاں نون سُن تے میریاں ہاواں دے ول نون
دھیان کر)

اے میرے بادشاہ! اے میرے خُدا! میری فریاد دے ول نون دھیان کر
کیوں جے میں تیرے تون ای دُعا کردا آں۔
اے خُداوند! تُو صُبح نون میری آواز سُنیں گا۔
(میں سویرے ای اپنا مُعاملہ لے کے تیرے حضور دے وچ حاضر ہواں گا تے اوہنوں تیرے
سلنے پیش کراں گا۔ تے میں اڈیکاں گاتاں پئی تُو میرے حق دے وچ جواب دیویں)
میں سویرے ای تیرے تون دُعا کر کے اڈیکاں گا
کیوں جے تُو ایویں دا خُدا نہیں ایں جیہڑا شرارت تون خُوش ہوویں
بدی تیرے نال نہیں رہ سکدی اے
گھمندی تیرے حضور دے وچ نہ کھلون گے

(ایتھے اسی ویکھدے آں پئی تِن واری نہیں نون ورتیا گیا اے۔ تُو شرارت تون خُوش نہیں
ہندا ایں، بدی تیرے نال نہیں رہ سکدی اے تے فیر گھمندی تیرے حضور کھڑے نہ ہون
گے۔ ایہہ او گلاں نے جہناں نون خُدا پسند نہیں کردا اے۔ او خُدا نون ایہہ یاد دواندا پیا اے
پئی تُو ایہہ ایہہ نہیں کردا ایں یاں تُو ایہناں ایہناں گلاں نون پسند نہیں کردا ایں)

تینوں ساریاں بد کرداراں توں نفرت اے

تُو اوہناں نوں جیہڑے جھوٹ بولدے نے ہلاک کردیوں گا

خُداوند نوں خُونی تے دغا باز بندے تو کراہیت اے

(ایتھے سانوں ویکھن نوں ملدا اے پئی زبور نویس خُدا دے بارے دے وچ کجھ گلاں نوں بیان

کردیاں ہوئیاں اوہدی جان پچھان کرواندا پیا اے۔ تے ایہدے باہجوں کجھ ہولا لجمہ اختیار کردا

اے تے راستباز بندے دے بارے دے وچ بیان کردا اے۔ تے ستویں آیت دے وچ ایویں

لکھیا ہويا اے)

پر میں تیرے شفقت دی کثرت دے نال تیرے گھر دے وچ آواں گا

(ایویں او ایس گل دا اقرار کردا اے پئی خُدا دی شفقت دے وچ کثرت پائی جاندی اے)

میں تیرا رعب من کے تیری مُقدس ہیگل دے ول نوں رُخ کر کے سجدہ کراں گا۔

اے خُداوند! میریاں ویریاں دے سببوں مینوں اپنی صداقت دے وچ چلا۔

میرے اگے اگے اپنی راہ نوں صاف کردے

(او خُدا توں اپنیاں ساریاں راہواں دے وچ اوہدا ساتھ چاہندا اے۔ او خُدا توں مدد منگدا

اے پئی کتے او اپنیاں ویریاں دے سببوں اپنی سدھی راہ توں بھٹک نہ جاوے)

کیوں جے اوہناں دے مُنہ دے وچ ذرہ سچائی نہیں اے

اوہناں دا باطن محض شرارت اے

اوہناں دا گلا کھلی قبر اے
او اپنی زبان توں خوشامد کردے نے
اے خُدا تُو اوہناں نوں مجرم ٹھہرا
او اپنے ای مشوریاں دے نال تباہ ہون
اوہناں نوں اوہناں دیاں پاپاں دی کثرت دے سببوں خارج کردے
کیوں جے اوہناں نے تیرے توں سرکشی کیتی اے
پر او جیہڑے تیرے اُتے بھروسہ رکھدے نے شادمان ہون
او سدا خُوشی دے نال للکارن کیوں جے تُو اوہناں دی حمایت کردا ایں
تے او جیہڑے تیرے نال نال محبت رکھدے نے تیرے وچ شاد رہن
کیوں جے تُو صادق نوں برکت دیویں گا
اے خُداوند! تُو اوہنوں اپنے کرم دے نال سپردی طرح ڈھک لیویں گا۔

خُداوند دے پاک کلام دے پڑھے تے سُنے جاوَن تے اوہدی برکت ہوئے۔ خُداوند دا شکر
اے۔

اسی ایس زبور نوں کئی حصیاں دے وچ ونڈھدیاں ہوئیاں ایہدی ہر اک آیت دے اُتے
دھیان کراں گے۔ تے ساریاں توں پہلاں اسی ایہناں شروع دیاں آیتاں دے اُتے دھیان
کراں گے۔

اے خُداوند میریاں گلاں دے اُتے دھیان کر!

میریاں ہاواں تے دھیان کر!

اے میرے بادشاہ! اے میرے خُدا! میری فریاد دے ول نوں دھیان کر

کیوں جے میں تیرے توں ای دُعا کردا آں۔

اے خُداوند! تُو صُبح نوں میری آواز سُنیں گا۔

میں سویرے ای تیرے توں دُعا کر کے اڈیکاں گا

پہلی آیت دے وچ ورتیا جاوَن والا لفظ آہ بہت ای اہمیت رکھدا اے۔ تے ایہہ لفظ اتھے پائی

جاوَن والی دُکھ تے درد دی حالت نوں بیان کردا اے۔ ایہہ اوس صورت حال نوں بیان کردا

اے جدوں تُو بہت ای دُکھی ہندے او تے تُو اپنے ایس دُکھ دے وچ خُدا نوں پُکار دے او۔

تُو ای اک دم گھبرا جاندا اے او تے تُو پریشان ہو جاندا اے او۔ تُو اڈا دُکھ شدت اختیار کر جاندا

اے تے تُو پیہڑی طرح سے نال اُلجھ جاندا اے او۔ ایس حالت دے وچ تُو اُمید کردے او

پئی کوئی تُو اڈے اُتے ترس کھاوے تے او تُو نوں تُو اڈی ایس مُصیبت دے وچوں کڈھے۔

ایویں ایہہ آیت ایس گل دی نشاندہی کردی اے پئی زبور نویس اپنی التجا خُدا دے حضور دے

وچ پیش کردیاں ہوئیاں ہاواں بھر دا پیا اے۔ او روندیاں ہوئیاں خُدا توں اپنی رہائی دے لئی
منت کردا پیا اے۔

تے فیر دوجی آیت دے وچ سانوں بادشاہ یعنی ملک صدق دے بارے دے وچ ذکر ویکھن نوں
ملدا اے تھانوں یاد ہوئے گا پئی اسی بہت واری ایہدے اُتے دھیان کیتا اے تے اسی کئی
مضموناں دے وچ ملک صدق تے خُدا دے بارے دے وچ دھیان کیتا اے۔ اسی خُدا دے
بارے گل کردیاں ہوئیاں لیلوہیم دا لفظ ورتیا سی پئی ایہہ خُدا دے لئی ورتیا جاوَن والا اک لفظ
اے۔

پُرانے عہد نامے دے وچ سانوں خُدا دا ناں یہواہ ویکھن نوں ملدا اے جیہڑا پئی خُدا دا بہت
ای مُقدس ناں اے۔ تے خُدا نے اپنے آپ نوں اپنے بندے موسیٰ تے اپنیاں نبیاں دے
اُتے ایس ای ناں توں ظاہر کیتا سی۔ تے ایویں ایہہ آکھیا جاسکدا اے پئی ایہہ یہواہ خُدا دا ذاتی
ناں اے۔ اسی جدوں وی خُدا نوں اوہدے ایس ناں توں پُکار دے آں تے اسی اوہنوں ایہہ یاد
کرواندے آں پئی خُدا نے ساڈے نال اک عہد بنھیا ہويا اے جیہڑا پئی اک ابدی عہد اے۔
ایویں جدوں وی اسی خُدا نوں اوہدے ذاتی ناں یہواہ توں پُکار دے آں تے اسی اوہنوں ایہہ یاد
دواندے آں پئی اے خُداوند اسی تیرے لوک آں تے اپنے اوس عہد دی بدولت تُو سانوں اپنی
عجیب قُدرت دی رائیں بچا۔

ایویں ایہہ خُدا دا بہت ای مُقدس تے ذاتی نال اے۔ پر جدوں اسی خُدا نوں لیلوہیم دے طور تے پُکار دے آں تے اسی اوہنوں بطور مُنصف، بادشاہ یا حاکم پُکار دے آں، ایویں لیلوہیم خُدا دا خطاب اے۔ تے ایویں ای جدوں اسی انگریزی لفظ لارڈ اُتے دھیان کردے آں جہدا پہلاں حرف ایل و ہڈا ہندا اے۔ تے ایہدے توں مُراد ایڈونائی اے جنہوں مالک یا خُداوند دیاں معنیاں دے وچ لیا جاندا اے۔ جدوں الیشع دا نوکر اوہناں بلاوندا اے تے او اوہدے لئی لفظ ایڈونائی ورتدا اے کیوں جے او اوہنوں اپنا مالک تے اپنا آقا آکھدا اے۔ ایہدے علاوہ سانوں پُرانے عہد نامے دے وچوں وی ایہہ لفظ کئی واری ورتیا گیا وکھالی دیندا اے کیوں جے او ساڈا مالک تے ساڈا آقا اے۔ زبور نویس خُدا دے اگے اپنیاں منتاں پیش کردیاں ہوئیاں کئی طرح دے الفاظ استعمال کردا اے۔ او اوہنوں بادشاہ، اپنا مالک تے اپنا آقا آکھدا اے۔ عبرانی دے وچ سانوں ملک صدق دا ذکر ملدا اے جہدا ترجمہ راستبازی دا بادشاہ اے جدوں پئی لیلوہیم حکمرانی دیاں معنیاں وچ آوندا اے۔ جدوں کوئی بندہ خُدا نوں اپنا مالک آکھدا اے تے او اوہدے نال اپنے خاص تعلق نوں بیان کردا اے۔ تے جدوں اسی خُدا نوں لیلوہیم آکھدے آں تے اسی اوہنوں آکھدے آں پئی او ایس کائنات دا مالک ہون دے ناطے دے نال ایس کائنات تے ساڈے معاشرے دے وچ اپنا کردار ادا کرے۔ پر جیویں پئی اسی پہلاں وی گل کیتی سی پئی جدوں اسی انگریزی لفظ لارڈ دے بارے گل کردے آں تے ایہدے توں مُراد مالک یا آقا اے تے ایہدا ترجمہ عبرانی زبان دے وچ ایڈونائی کیتا گیا اے۔ جدوں اسی پُرانے عہد نامے دے

وچ الیشع نوں ویکھدے آں تے اوہدا نوکر اوہنوں ایڈونائی آکھدا اے۔ جہدے توں مُراد ہے پئی
 او اوہنوں اپنا آقا تے مالک آکھدا اے۔ اُج کل اسی عزت دار لوکاں نوں سر یا میڈم آکھدے آں
 تے ایہہ ساڈے دل دے وچ پائی جاون والی کسے دے لئی عزت نوں ظاہر کردا اے۔ پر اتھے
 اسی ویکھدے آں پئی زبور نویس ایہناں ساریاں لفظاں نوں خُدا دے لئی ورتدا اے۔ کیوں جے
 او جاندا اے پئی خُدا ای ساری کائنات دا خالق تے مالک اے تے او ای ایس ساری وہڈی
 کائنات دے نظام نوں چلاوندا پیا اے۔ اوہنے اپنیاں لوکاں دے نال بہت سارے وعدے کیتے
 نے جنہاں نوں اوہنے اک اک کر کے پُوریا وی کیتا اے۔ او وعدیاں دا سچا خُدا اے تے اوہنے
 اپنے سارے وعدے اپنے پتر دی رائیں پُورے وی کیتے نے۔ تے ایویں اوہدے سوہنے پتر
 ساڈے خُداوند یسوع مسیح نے ای سانوں ایہہ حق دتا اے پئی اسی اوہنوں پئیو آکھ کے سد
 سکئیے۔ اسی اوہدے نال قائم ساڈے تعلق دے وجہ توں اوہنوں اپنا یار وی آکھ سکدے آں۔
 اسی اوہدے بارے جان سکدے آں تے اوہدے بارے دے وچ پتہ لگا سکدے آں پئی اوہنوں
 کیہہ چنگا لگدا اے تے کیہہ اوہنوں چنگا نہیں لگدا اے۔ اسی اپنیاں جیاتیاں دی رائیں اوہدی
 مرضی نوں پُورا کر سکدے آں۔ اسی اپنے ہر اک کم دی لئی اوہدے توں مدد منگ سکدے آں
 تاں پئی اوہنوں پُورا کر سکئیے۔ سانوں ہر اک کم تے ہر اک گل دے وچ اوہدی ای مرضی نوں
 پُورا کرنا چاہیدا اے۔ تے جیہڑی گل دے وچ اوہدی مرضی پُوری نہ ہوئے اوہدے توں پرہیز
 کرنا چاہیدا اے۔ جے اسی اوہدی مرضی نوں پُورا کردے آں تے او سانوں کدی وی شرمندہ

نہیں ہون دیونے گا۔ اسی اوہدے نال ایویں گل کرسکدے آں جیویں اسی اپنے کسے گھر دے
 بندے یاں عزیز دے نال گل کردے آں۔ تئسی جمدے نال بہت زیادہ پیار کردے او اوہدے
 بارے تئسی دھیان رکھدے او پئی اوہنوں کیہڑیاں کیہڑیاں گلاں چنکیاں لگدیاں نے۔ تے او
 کیہڑیاں کیہڑیاں گلاں نے جمنوں نوں او پسند نہیں کردا اے۔ ایس حوالے دے وچ زبور نویس
 خُدا یعنی یہواہ تے اپنے مالک بادشاہ دے اگے اپنی منت تے اپنی التجا نوں پیش کردا اے۔ او
 لیلوہیم یعنی ایس کائنات دے حاکم دے سامنے حاضر ہندا اے تے اوہدے توں اپنے لئی مدد
 منگدا اے۔ پر اہم گل ایہہ ہے پئی او خُداوند اپنے خُدا دے نال اک خاص تعلق رکھدا اے۔ او
 اوہنوں بلاوندیاں ہوئیاں ایہہ نہیں آکھدا اے پئی اے میری قوم دے خُدا، یا اے میریاں
 لوکاں دے خُدا یا اے میرے قبیلے دے خُدا۔ سگوں او ایہہ آکھدا اے پئی اے میرے خُدا!
 اے میرے بادشاہ!

او خُدا دے نال اپنے ذاتی تعلق نوں بیان کردا اے۔ او خُدا نوں ایہہ آکھنا چاہندا اے پئی میں
 تیرا بندہ آں تے میری مدد کرنا تیری ذمہ داری اے۔ ایس لئی میں تیرے توں منت کردا آں
 پئی تُو میرے لئی ایہہ کم کر۔ جیویں پئی جدوں میں خُدا دے نال گل کردا آں تے میں
 اوہنوں ایویں آکھدا آں پئی اے میرے خُداوند میں تیرے توں منت کردا آں پئی تُو اپنی
 وفاداری نوں میرے اُتے ظاہر کر، میں تیرے پتر دی رائیں پورے کیتے گئے سارے وعدیاں
 دے لئی تیرا شکر ادا کردا آں۔ میں اوہدے نال گلاں کردیاں ہوئیاں اوہنوں وعدیاں دا سچا خُدا

آکھدا آل کیوں جے اوہنے اپنے پتر دی رائیں ایویں کیتا اے تاں پئی اپنی بادشاہی نوں قائم کرے۔ او اوہدے نال دے جلال دے لئی اوہدی رائیں قوماں نوں برکت دیندا اے۔ ایتھے زبور نویس خُدا نوں اوہدیاں وعدیاں نوں یاد دواندا اے۔ او آکھدا اے پئی خُداوند تُو وعدیاں دا سچا خُداوند ایں تے لہہ تیرا وعدہ اے پئی تُو اپنے پُکارن والیاں نوں جواب دیندا ایں۔ تے میں تینوں اے میرے بادشاہ! اے میرے خُدا! اے میرے وعدیاں دے سچے خُدا اپنی مدد دے لئی بلاوندا آل۔ تے دھیان کرو پئی او خُدا نوں پُکار دیاں ہوئیاں اوہنوں اپنا خُدا، اپنا بادشاہ آکھدا اے تے ایویں او خُدا دے نال اپنے ذاتی تعلق نوں بیان کردا اے۔ او ایتھے صرف خُدا نوں پُکاردا ای نہیں پیا اے سگوں او خُدا دے سلنے بہت ای عاجزی تے انکساری دے نال حاضر اے۔ اوہدیاں لفظاں دے وچ اوہدیاں ہاواں تے اوہدی شکستگی وی شامل ہین۔ او خُدا نوں

پُکار دیاں ہوئیاں آکھدا اے پئی

اے خُداوند میریاں گلاں دے اُتے کن لگا!

میریاں ہاواں دے اُتے دھیان کر!

اے میرے بادشاہ! اے میرے خُدا! میری فریاد دے ول نوں دھیان کر۔

او خُدا نوں اپنا خُدا تے اپنا بادشاہ آکھدا اے۔ او اوہدے بارے دے وچ جاندا اے تے یقین

رکھدا اے پئی او ایویں کرن تے قادر اے۔ ایس لئی او خُدا توں التجا کردیاں ہوئیاں اوہنوں

شریراں دی عدالت کرن دے بارے آکھدا اے۔ تے او اوہنوں یاد دواندا اے پئی اے میرے

خداوند! اے میرے بادشاہ! تینوں ایسے ایسے لو کی پسند نہیں ایس لئی تُو ایسناں لوکاں دی
عدالت کرتے ایسناں نوں مجرم ٹھہرا۔ تے فیر اتھے بیان کیتیاں گئیاں آیتاں دے وچ ایویں
لکھیا ہویا اے:

کیوں جے تُو ایویں دا خدا نہیں ایں جیہڑا شرارت توں خوش ہویں

بدی تیرے نال نہیں رہ سکدی اے

گھمندی تیرے حضور دے وچ نہ کھلون گے

تینوں ساریاں بد کرداراں توں نفرت اے

تُو اوہناں نوں جیہڑے جھوٹ بولدے نے ہلاک کردیوں گا

خداوند نوں خونی تے دغا باز بندے توں کراہیت اے

جدوں اسی چوتھی تے پنجویں آیت دے اُتے دھیان کردے آں تے او تھے سانوں کجھ گلاں دے

وچ نفی دا ذکر ویکھن نوں بلدا اے۔ ایسناں آیتاں دے وچ تِن واری نہیں دا لفظ ورتیا گیا اے

ایویں زبور نویس خدا دے بارے دے وچ بیان کردا پیا اے پئی او کون اے یا اے خداوند تُو

ایویں دا خدا ایں۔

او آکھدا اے پئی اے میرے خدا مینوں پتہ اے پئی تُو ایسناں لوکاں تے ایسناں ایہاں

گلاں نوں چنکا نہیں جاندا ایں، تے ایسے او گلاں نہیں جیہڑیاں تیرے وچ پائیاں جاندیاں نے۔

ایس کائنات دا حاکم ہون دے ناطے کجھ گلاں نے جیہڑیاں تیری شخصیت دا اک حصہ نے۔ تے

ایتھے اسی اک واری فیر خُدا دا ذکر بطور لبلوہیم ویکھدے آں۔ ایتھے فیر سانوں اوہدی حاکمیت
 دے تعلق دے نال کجھ گلاں ویکھن نوں ملدیاں نے۔ ایہہ او ساریاں گلاں نے جنہاں دے اُتے
 اسی ایس حصے دے وچ دھیان کردے پئے آں۔ ایہہ سانوں اوس حاکم تے اوس سچے بادشاہ دی
 اک تصویر پیش کردیاں پئیاں نے۔ ایویں سانوں اوس مالک بادشاہ دی شخصیت دیاں کئی
 حصیاں دے بارے جانن نوں ملدا اے۔ او شریراں دے بارے دے وچ ایویں بیان کردا اے
 پئی او خُدا دے حضور دے وچ کھلو نہیں پاون گے تے نہ ای اوہدے حضور دے وچ قائم رہ
 سکن گے۔ کیوں جے خُدا پاکیزگی دا خُدا اے تے جنہاں لوکاں دے بارے دے وچ ایتھے گل
 بات ہندی پئی اے او اوس پاکیزگی دے معیار اُتے پورے نہیں اُتردے نے۔ ایس لئی زبور
 نویس ایتھے خُدا دیاں خوبیاں نوں بیان کردا ہويا اکھدا اے پئی:

گھمندی تیرے حضور دے وچ کھلو نہیں سکن گے

تینوں ساریاں بد کرداراں توں نفرت اے

تُو اوہناں نوں جیہڑے جھوٹ بولدے نے ہلاک کردیویں گا

خُداوند نوں خونیاں تے دغا بازی کرن والیاں توں کراہیت اے۔

او ایتھے صرف اوہناں گلاں نوں ای بیان کردا اے جیہڑیاں خُدا نوں پسند نہیں ہین۔ ایویں

دے لوکی جنہاں توں خُدا نوں سخت کراہیت اے تے ایہہ وی پئی خُدا اوہناں دے نال کیہ

کرے گا۔ اسی انسان ہندییاں ہوئیاں اوہناں لوکاں نوں ملنا پسند نہیں کردے آں جنہاں توں

ساڈے دل نوں نفرت ہوئے۔ اسی کدی وی ایہہ پسند نہیں کردے آں پئی اسی اوہناں نوں
 کدی ویکھئے وی۔ خُدا دے پاک کلام دے وچ بہت سارے قانون پائے جانداں نے جہناں نوں
 اسی خُدا دی شریعت دے طور تے جانداں آں۔ دھیان کرو پئی اسی خُدا دے لوک ہندیان
 ہوئیاں کیویں اوہناں دے اُتے عمل کردے آں۔ اسی اپنی جیاتی دے وچ بہت ساریاں
 فیصلیاں نوں کردیاں ہوئیاں کشمکش دا شکار ہو جانداں آں۔ تے کئی واری اسی چھیتی چھیتی
 کردیاں ہوئیاں خُدا دیاں حکماں دی خلاف ورزی کر جانداں آں۔ خُدا دے پاک کلام دے وچ
 ساڈے لئی ہر طرح دے نال راہنمائی پائی جانداں آں۔ او چاہندا اے پئی اسی اپنی جیاتی اوہدی
 راہنمائی دے وچ بسر کریئے۔ جدوں پئی او لوکی جیہڑے خُدا دے نال سچے دل دے نال نہیں
 رُڈے نے اوہناں نوں اپناں جیاتیان دے لئی کئی واری دفاع دی لوڑ ہندی اے۔ پر اک
 راستباز بندہ خُدا یعنی لیلوہیم دے اُتے اپنا توکل رکھدا اے۔ او خُدا نوں ایس کائنات دا حاکم
 خیال کردا اے تے او اوہدے وچ تحفظ محسوس کردا اے۔ اسی پہلاں وی ایس گل دے اُتے
 دھیان کیتا اے پئی لیلوہیم خُدا دا خطاب اے جہنوں او اپنی حاکمیت نوں ظاہر کرن دے لئی
 ورتدا اے۔ تے ایس ای تعلق دے نال اسی ایہہ وی ویکھیا سی پئی پُرانے عہد نامے دے وچ
 اسرائیلی بزرگاں نوں وی لیلوہیم آکھیا جاندا اے تے ایہدے توں مراد اوہناں نوں انصاف
 کرن والا لیا جاندا اے۔ دھیان کرن دے قابل گل ایہہ ہے پئی بہت ساریاں تھواواں تے
 نکیاں معبوداں دے لئی وی لیلوہیم دا لفظ ورتیا گیا اے۔ ایہدے باہجوں سانوں زبور نویس دے

ولوں عدالت دا ذکر وی بلدا اے۔ ایہہ اک زمینی معاملہ اے تے یاد رکھو پئی جدوں اسی خُدا
 دی حضوری دے وچ چلے جاندا اے تے اوتھے سانوں کسے وی طرح دی عدالت دا سامنا
 نہیں کرنا پیندا اے۔ ایویں عدالت دا سارا کم صرف زمینی طور تے ای اہمیت دا حامل اے۔
 کیوں جے خُدا پاکیزگی دا خُدا اے تے ایس لئی ایتھے خُدا دا بندہ ایہہ اکھدا اے پئی بدی تیرے
 حضور دے وچ نہیں رہ سکدی اے تے فیر ایہہ وی پئی گھمندی تیرے حضور وچ نہ کھلو سکنا
 گے۔ جھوٹ بولن والیاں نوں او ہلاک کرے گاتے خونیاں تے دغا بازاں توں اوہنوں سخت
 نفرت اے۔ ایویں ایہناں ساریاں شیواں تے ایہناں ساریاں لوکاں دا خُدا دی حضوری دے
 نال کوئی تعلق نہیں اے۔ ایہہ او لوک نے جنناں دا نجات دے نال کوئی تعلق نہیں پایا جاندا
 اے تے جنناں نے خُدا دے پتر دے دتے گئے فدیے نوں قبول نہیں کیتا اے تے اوہنوں
 اپنیاں جیتیاں دے وچ داخل ہون دے لئی دعوت نہیں دتی اے۔ جدوں اسی نجات دے
 بارے دے وچ گل کردے آں تے ایہدا تعلق دسویں تے گیارہویں آیت دے نال پایا جاندا
 اے۔ پر جدوں اسی چھیویں آیت دے وچ ویکھدے آں تے خُدا دا بندہ ایویں اکھدا اے پئی
 اے خُدا ایہہ ایہہ گلاں نے تے ایہہ ایہہ بندے نے جنناں نوں تُو پسند نہیں کردا ایں۔ تے
 ایہہ سارا کجھ او اے جیہڑا تیرے حضور دے وچ قائم نہیں رہ سکدا اے تے میں ایس گل
 نوں جاندا آں۔

تے فیر اگلی ای آیت دے وچ او ایس گل نوں بیان کردا اے پئی میں ایہہ وی جاندا آں پئی
 تینوں کیہ کیہ پسند اے۔ تے فیر ستویں آیت دے وچ ایویں لکھیا ہویا اے پئی میں تیری
 شفقت دی کثرت دے نال تیرے گھر دے وچ آواں گا۔ میں تیرا رعب من کے تیری پاک
 ہیکل دے ول نوں رُخ کر کے سجدہ کراں گا۔ او اتھے ایہہ نہیں آکھدا اے پئی میں اپنی
 راستبازی دے سببوں ایہہ کراں گا سگوں او ایس گل نوں بیان کردا اے پئی خُدا دیاں بہت
 ساریاں صفتاں دے وچوں اک ایہہ وی ہے پئی او شفقت کردا اے تے او کثرت دے نال
 شفقت کردا اے۔ ایس ای لئی او آکھدا اے پئی میں تیری شفقت دی کثرت دے سببوں
 تیرے گھر دے وچ آواں گا۔ میری راستبازی دی کثرت نہیں سگوں میں خُدا دی شفقت دی
 کثرت دے سببوں اوہدے گھر دے وچ آواں گا۔ خُدا دی حضوری دے وچ جاؤن دے لئی
 انسانی راستبازی نہیں سگوں خُدا دے پیار تے اوہدی شفقت دی لوڑ ہندی اے۔ ایہہ خُدا
 دے پیار دا وہڈا وعدہ اے جمدی رائیں اسی خُدا دی حضوری وچ داخل ہون دا شرف حاصل
 کردے آں۔ اسی ایہہ نہیں آکھ سکدے آں پئی میں گناہگار نہیں آں۔ یا میں اپنی
 راستبازیدے سببوں خُدا دی راستبازی دے وچ داخل ہو جاواں گا یا ایہہ پئی میں فلاں فلاں کم
 کیتے نے جیہڑے ایہدے لئی کافی نے پئی میں خُدا دی بادشاہی دے وچ داخل ہوسکاں۔
 اتھے اسی ویکھدے آں پئی داؤد اپنی کسے ذاتی خُوبی نوں نہیں بیان کردا اے سگوں اوہدے اندر
 پائے جاؤن والے خُدا دے خوف دی اک جھلک اتھے سانوں ویکھن نوں ملدی اے۔ او اتھے

سانوں ایہہ دسدا اے پئی خُدا مہربان خُدا اے تے اوہدی شفقت کثرت دے نال پائی جاندی
اے جمہدے وچ سانوں اوہدی حضوری تیکر رسائی حاصل ہندی اے۔ تے ایہہ ای وجہ اے
پئی او خُدا دی تعریف کردا اے تے اوہدی شفقت دا ایتھے اظہار کردا اے۔ تے فیہ ایس ای
آیت دے اگلے حصے دے وچوں اسی ویکھدے آں پئی خُدا دا بندہ داؤد ایویں بیان کردا اے :

میں تیرا رعب من کے تیری مُقدس ہیگل دے ول نوں رُخ کر کے سجدہ کراں گا۔

اوہدے اندر خُدا دا خوف پایا جاندا اے تے او جاندا اے پئی خُدا مہربان خُدا اے تے او رحم کرنا
پسند کردا اے۔ او خُدا دی ایس ای رحمت دے اُتے بھروسہ رکھدیاں ہوئیاں خُدا دے گھر
دے وچ جاؤن دے بارے دے وچ گل کردا پیا اے۔ او جاندا اے پئی اوہدی شخصیت کامل
نہیں اے تے او اپنیاں خوبیاں دی وجہ توں خُدا دے گھر دے وچ جاؤن دے قابل نہیں
اے۔ پر خُدا دے ولوں عطا کردہ مُعافی تے رحمت اوہدا حوصلہ و ہداوندیاں نے پئی او خُدا دے
گھر دے وچ داخل ہو سکدا اے۔ ایس لئی او ایتھے ایس گل دا اظہار کردا اے پئی میں خُدا دا
خُوف اپنے دل دے وچ رکھدیاں ہوئیاں اوہدی پاک ہیگل دے ول نوں رُخ کر کے سجدہ کراں
گا

ساڈے وچوں کوئی وی ایس قابل نہیں اے پئی خُدا دی پاک حضوری دے وچ داخل ہون
دے بارے دے وچ سوچ وی سکے۔ خُدا ایس گل نوں جاندا اے تے ایس لئی اوہنے انسانیت
دے نال اپنے پیار نوں ظاہر کردیاں ہوئیاں اپنے سوہنے پتر ساڈے خُداوند یسوع مسیح نوں

ایس دُنیا دے وچ گھل دتا سی تے اوہدی رائیں اوہنے سانوں اسمانی باپ تیکر رسائی دا شرف
بخشیا سی۔ دُنیا دے وچ کوئی وی ایویں دا بندہ نہیں پایا جاندا اے جیہڑا ایہہ آکھ سکے پئی میں
بے گناہ آں۔ پاک کلام دے وچ صرف اک ای اجی ہستی پائی جاندی اے جمدے وچ کوئی گناہ
نہیں پایا جاندا اے۔ اوہنے آپ اُچی آواز دے وچ ایہہ آکھیا سی پئی تہاڈے وچوں کون اے
جیہڑا میرے وچوں گناہ ثابت کرے۔ تے ایہہ ہستی خُدا دا سوہنا پُتر ساڈا خُداوند یسوع مسیح
اے جمدے وچ ساڈی نجات تے رہائی پائی جاندی اے۔

اگے وہدے آں تے ویکھدے آں پئی اٹھویں آیت دے وچ ایویں لکھیا ہویا اے:

اے خُداوند! میریاں ویریاں دے سببوں مینوں اپنی صداقت دے وچ چلا۔

میرے اگے اگے اپنی راہ نوں صاف کردے

ایتھے عبرانی زبان دے جیہڑا لفظ ویریاں دے لئی ورتیا گیا اے اوہدے توں مراد ایویں دے
لوکی نے جیہڑے راہواں دے وچ لُک جاندے نے تاں پئی لُک کے دو جیاں دے اُتے وار کر
سکن۔ اسی عام طور تے راہواں دے بارے دے وچ جاندے آں پئی اوہناں دے کنڈیاں اُتے
جھاڑیاں اگیان ہُنڈیاں نے یا کنڈیاں تے چھاں دیون دے لئی رُکھ لگے ہُنڈے نے۔ ایویں ایتھے
جہناں لوکاں نوں ویری آکھیا گیا اے او لُک کے دو جیاں دے اُتے وار کردے نے تے اوہناں
نوں ہلاک کردے نے۔

ایتھے زبور نویس خُدا توں ایہہ دُعا منگدا اے پئی اے میرے خُدا تُو میریاں راہواں نوں ایویں
ترتیب دے پئی میں اپنیاں ویریاں دی وجہ توں اپنی سِدھی راہ توں بھٹکن توں محفوظ رہ
سکاں۔ جے اسی ویکھئیے تے خُدا دے پاک کلام وچ یرمیاہ ۳۱ باب دی ۹ آیت دے وچ ایویں
لکھیا ہویا اے:

او روندے ہوئے تے مُنجاتاں کردے ہوئے آون گے

میں اوہناں نوں راہ دکھاواں گا

میں اوہناں نوں پانی دیاں ندیاں دے ول نوں سِدھی راہ دے اُتے چلاواں گا۔ جمدے وچ او

ٹھوکر نہ کھاؤں گے کیوں جے میں اسرائیل دا باپ آں تے افرائیم میرا پہلو ٹھا اے۔

ایتھے اسی ویکھدے آں پئی زبور نویس ایس گل دا اظہار کردا اے پئی اے خُداوند میرے خُدا

میں مُصیبت دے وچ آں۔ میرے ویری میری خلاف اکٹھے ہو گئے نے تے او مینوں تکلیف

دیندے پئے نے او مینوں تباہ کردینا چاہندے نے۔ او خُدا نوں ایہہ آکھدا پیا اے پئی میں

اصل وچ ایس گل دی خواہش رکھدا آں پئی تُو میری جیاتی دیاں ساریاں راہواں دے وچ

مینوں سنبھال تے اوہناں نوں صاف کردے۔ او اصل وچ خُدا نوں اپنا خُدا تے اوہنوں اپنا

بادشاہ آکھ کے پُکاردا اے۔ تے او اوہدے توں ایس گل دی درخواست کردا اے۔ پئی تُو مینوں

میرے سارے ویریاں تے میرے سارے نقصان پہنچاون والیاں توں محفوظ رکھ۔

زبور نویس ایس توں پہلاں بت سبب تے حتی اوریہ دے تجربے توں آگاہ اے تے او خُدا توں
اپنے آون والے ویلے دے لئی مدد منگدا اے۔ او خُدا توں مدد منگدا اے پئی ہُن تُو آون والے
سارے ویلے دے وچ میرے آگے اپنیاں ساریاں راہواں نوں سدھیاں کردے۔ تاں میں
ہُن جمالت وچ نہ رہندیاں ہوئیاں کوئی وی ایویں داکم نہ کراں جیہڑا تیرے خلاف گناہ گنا
جاوے۔ او خُدا توں اپنے دل دے لئی پاکیزگی دی دُعا منگدا اے۔ کیوں جے ہُن او ایس گل نوں
جان چکيا اے پئی گناہ دُکھ نوں جنم دیندا اے۔

او چاہندا اے پئی خُدا اوہدیاں راہواں نوں اینا صاف کردے پئی او کسے وی فطری گناہ نوں کرن
توں محفوظ رہوے۔ جدوں تہاڈا راہ جمدے اُتے تسی چلدے او تنگ ہندا اے تے تسی یقیناً
اوہدے وچ بہتی آزادی دے نال نہیں چل سکدے او تے تہاڈے ایس سفر دے وچ غلطی دی
گنجائش گھٹ ہندی اے۔ جدوں پئی ایہدے اُلٹ جدوں تسی کھلے راستے دے اُتے چلدے او تے
تہاڈا دھیان ایدھر اودھر وی ہندا اے ایس لئی تسی غلطی کر سکدے او جیہڑا پئی اک فطری عمل
اے۔ تے اتھے زبور نویس نوں وی اتھے ایس ای گل دا خطرہ پایا جاندا اے ایس ای لئی او آکھدا
اے پئی میں نہیں چاہندا آں پئی میں اپنی ای کسی غلطی یاں خطا دی وجہ توں راہ دے وچ ای
رہ جاواں۔

بہت واری ایویں ہندا اے پئی سانوں اپنی جیاتی دے وچ بہت ساریاں تھواں تے اوکھے فیصلے
وی کرنے پیندے نے۔ ایویں دی حالت دے وچ اسی کجھ پریشانی دے شکار ہو جاندا اے۔ پر

میں ذاتی طور تے جدوں وی ایویں دی حالت دے وچ ہندا آں تے میں خُداوند اپنے خُدا نون
پُکاردا آں۔ میں ایہناں ساریاں مسئلیاں نون خُدا دے اگے رکھدا آں تے میں اوہدے تون مدد
منگدا آں۔ میں خُداوند اپنے خُدا تون کجھ ایویں مخاطب ہندا آں :

خُداوند میرے پاک خُدا میں جاندا آں پئی میں تیرے تون ہر روز پاک ہونا چاہندا آں۔ پر آج
میں حقیقی معنییاں دے وچ تیرے تون منت کردا آں پئی میں واقعی تیرے تون پاک ہونا
چاہندا آں۔ تُو مینوں دھو، پاک کرتے مینوں سدھے راہ دے اُتے چلا۔ خُداوند میں اپنی حیاتی
دے وچ گناہ نون نہیں ویکھنا چاہندا آں تے میں نہیں چاہندا آں پئی میری حیاتی کشمکش دا
شکار ہوئے تے میں تیرے تون دُور ہو جاواں۔ تے ایہدا صاف تے واضح مطلب ایہہ ہے پئی
خُداوند میرے پاک خُدا تُو مینوں راستباز بنا۔ تے ایس آیت تون ایہتھے عام لفظاں دے وچ ایہہ
لیا جاندا اے پئی خُداوند مینوں اپنی راہ اُتے چلا تے میرے اگے اپنیاں راہواں نون سدھا
کردے۔ ایویں او خُدا دے ول نون ساڈا دھیان کرواندا اے۔ پر دھیان کرن دے قابل گل ایہتھے
ایہہ پائی جاندا اے پئی او ایہہ درخواست ایہتھے اپنیاں ویریاں دے سببوں کردا پیا اے۔ تئسی
خُداوند اپنے خُدا دے نال اپنیاں تعلقاں دے وچ راستباز ہو سکدے او۔ تے تئسی چاہندے او پئی
تئسی اپنیاں ساریاں راہواں دے وچ تے اپنیاں ساریاں مُعاملیاں دے وچ خُدا دے سلمنے راست
ہوؤ۔ کیوں جے تئسی جاندا اے او پئی ایس ای گل دے وچ خُدا دی خُوشی تے اوہدی مرضی پائی
جاندا اے تے ایویں تئسی خُدا دی خُوشی تے اوہدی مرضی دی خاطر ایویں کرن دی خواہش

رکھدے او۔ پر اتھے اسی ویکھدے آل پئی مُعاملہ کجھ ہور طرح دا اے تے زبور نویس اتھے ایہہ
سارا کجھ خُدا دے سامنے اپنیاں ویریاں دے سببوں آکھدا پیا اے۔

ایس اگلی آیت دے وچ ویکھدے آل پئی سانوں ایہناں ویریاں دا ذکر وی بلدا اے۔ ایہہ او
سارے لوکی نے جیہڑے یہودیوں دے سردار نے تے اوہدیاں ویریاں دے نال رل کے اوہدے
خلاف بغاوت کردے پئے نے۔ تے او سارے لوکی نے جیہڑے اوہدے آسے پاسے دیاں ساریاں
قوماں دے حاکم نے۔ تے جدوں اسی نویس آیت دے وچ ویکھدے آل تے او تھے ایویں لکھیا ہویا
اے:

کیوں جے اوہناں دے مُنہ دے وچ ذرہ سچائی نہیں اے

اوہناں دا باطن محض شرارت اے

اوہناں دا گلا کھلی قبر اے

او اپنی زبان توں خوشامد کردے نے

اتھے داؤد اپنیاں ویریاں دے بارے گل کردیاں ہوئیاں کجھ منفی گلاں دا ذکر کردا اے جیہڑیاں

اوہناں دے وچ پائیاں جانڈیاں نے تے او خُدا نوں چنگیاں نہیں لگدیاں نے۔ او خُدا نوں آکھدا

اے پئی اوہناں دے وچ ذرہ سچائی نہیں پائی جانڈی اے مطلب ایہہ پئی او جھوٹ بولدے

نے، او شرارت کردے نے تے او خوشامدی نے۔ اُج اسی اکیسیوں صدی دی وچ اپنی جیاتی

بسر کردے پئے آل تے اسی ویکھدے آل پئی ایہہ ساریاں گلاں اُج وی ساڈیاں جیتیاں دے

وچ پائیاں جاندياں نے۔ تے آج وی سانوں ڈاہڈی لوڑاے پئی اسی اپنیاں جياتياں دے وچ
ايویں دياں سارياں گلاں دے بارے دے وچ سنجيدگی دے نال دھيان کريے تے ايہناں نوں
اپنیاں جياتياں دے وچوں کڈھ کے باہر کرديے۔

تے جدوں اسی نوں عہد نامے دے وچوں ايہناں ای گلاں دے اُتے دھيان کر دے آں تے
اوتھے سانوں روميوں ۳ باب دی ۱۳ آیت دے وچوں ايویں دے ای بيان ویکھن نوں بلدے
نے۔ تے اوتھے اسی ویکھ سکدے آں پئی يہودياں دياں سرداراں دے بارے دے وچ گل بات
ہندی پئی اے۔ ايہہ او قوم دے راہنما نے جنہاں نوں خُدا نے دولت تے عزت دے نال
نوازيا ہویا اے۔ پر اسی ویکھدے آں پئی او خُدا دياں ايہناں برکتاں نوں چنگی طرح دے نال
نہیں ورتدے پئے نے۔ ايویں ايہہ ایس گل نوں واضح کر دیا اے پئی او جیہڑے خُدا دے
مُکاشفياں نوں جان دے نے او وی اوہدے حضور دے وچ مجرم ٹھہرن گے۔ مطلب ايہہ پئی او
وی گناہگار نے تے اوہناں نوں وی گنتی دیون والے دی لوڑاے۔

تے فیر ايہدے باہجوں اگلی آیت دے وچ ايویں لکھیا ہویا اے :

اے خُدا تُو اوہناں نوں مجرم ٹھہرا

او اپنے ای مشوریاں دے نال تباہ ہون

اوہناں نوں اوہناں دياں پاپاں دی کثرت دے سببوں خارج کر دے

کیوں جے اوہناں نے تیرے توں سرکشی کیتی اے

پر ایتھے اسی ویکھدے آں پئی او خُدا دے اگے روندیاں ہوئیاں تے ہاواں بھردیاں ہوئیاں دُعا
 منگدا پیا اے۔ اہمدے توں پکھلے حصے دے وچ اسی ویکھیا سی پئی او خُدا نوں آکھدا اے پئی تُو
 ایویں ایویں نہیں کرسکدا ایں تے ایویں دے لوک نے جہناں نوں تیرے حضور دے وچ
 نہیں ہونا چاہیدا اے۔ تے اہمناں لوکاں نوں تُو پسند نہیں کردا ایں۔ تے او ایتھے اہمناں
 لوکاں دے بارے دے وچ ای خُدا توں منت کردا اے پئی تُو اہمناں لوکاں دی عدالت کرتے
 اہمناں نوں مجرم ٹھہرا۔ کیوں جے اسی جاندا اے پئی جدوں کوئی بندہ مجرم ٹھہردا اے او
 قانونی طور تے سزا دا مُستحق ہندا اے۔ او خُدا توں منت کردا اے پئی ہُن تُو اوہناں دی
 عدالت کرتاں پئی او قانونی طور تے او ای وہڈن جو اوہناں نے بویا اے۔ او ایتھے خُدا توں
 اہمدے علاوہ ہور کجھ نہیں منگدا اے پئی او اوہدیاں ویریاں دی عدالت کرے تے اوہناں نوں
 اوہناں دی کیتے دے مُطابق سزا دے۔ مطلب ایہہ پئی اوہناں نے جو کجھ وی پیہڑا کیتا اے یا
 اوہناں نے جو کجھ وی پیہڑا سوچیا اے او اوہناں دے اُتے ای آپوئے۔
 اصل وچ جدوں اسی کسے دے بارے وچ ایویں سوچدے یاں آکھدے آں پئی خُدا اوہناں دی
 عدالت کرے تے اسی اصل وچ اوہناں دے لئی خُدا توں لعنت منگدے ہندے آں۔
 پر جدوں اسی نویں عہد نامے دے وچوں ویکھدے آں تے او تھے سانوں پتہ لگدا اے پئی
 خُداوند یسوع مسیح دی شخصیت دے وچ سانوں کسے وی ویری دے لئی ایویں دے لفظ ویکھن
 نوں نہیں ملدے نے۔ سگوں اوہنے تے ایہہ آکھیا سی پئی اپنیاں ویریاں دے لئی دُعا کروتے

اوہناں دے لئی جیہڑے تہانوں ستاوندے نے برکت چاہو۔ تے خُدا دا پاک کلام ایس گل نون

بیان کردا اے پئی خُداوند یسوع مسیح نے ایہہ صرف آکھیا ای نہیں سی سگوں اوہنے اپنی

بابرکت جیاتی توں ایہنوں عملی طور تے کر کے وی دکھایا سی۔

اسی جاندے آن پئی جدوں اسی خُدا نون آکھدے آن پئی تُو فلاں بندے یاں فلاں گروہ دی عدالت کر تے اسی اصل
وچ اوہناں دے اُتے خُدا دے غضب دے بارے آکھدے بُندے آن۔ کیوں جے جدوں خُدا انسانیت دی عدالت کرے

گاتے اوس ویلے کوئی وی بندہ ایس قابل نہیں ہوئے گا پئی او اوہدے حضور دے وچ بے گناہ نکلے۔ پر او

سارے جیہڑے تیرے اُتے بھروسہ رکھدے نے شادمان ہون۔

اوسدا خوشی دے نال للکارن کیوں جے تُو اوہناں دی حمایت کردا ایس

تے او سارے جیہڑے تیرے نال توں محبت رکھدے نے او تیرے وچ شاد رہن۔

تے فیرا خیری آیت دے وچ ایویں لکھیا ہويا اے:

کیوں جے تُو صادق نون برکت دیویں گا

اے خُداوند! تُو اوہنوں کرم دے نال سپردی طرح ڈھک لیویں گا۔

ایتھے سانوں خوشی دا ذکر بلدا اے پر ایہہ صرف اوہناں لوکاں دے بارے ای آکھی گئی اے

جنناں نون خُدا دے ولوں تحفظ حاصل اے۔ شریراں دے بارے دے وچ سانوں خوشی دا کوئی

ذکر نہیں بلدا اے۔ سگوں ایہدے اُلٹ لکھیا ہويا اے پئی خُداوند تُو اوہناں دی عدالت کر

تے اوہناں نون مجرم ٹھہرا۔ شریراں دی خوشی ابدی نہیں اے تے اوہدے وچ خُدا دے ولوں

پائیداری شامل نہیں اے۔

شادمانی توں مُراد اتھے ایہہ نہیں اے پئی شریر ایہدے توں محروم نے سگوں اک راستباز
 بندے دے لئی خُدا دے ولوں ایہہ اوہدی محافظت دے ول نوں اشارہ کردی اے۔ خُدا شریر
 نوں تحفظ فراہم نہیں کردا اے تے اوہدیاں ویریاں دے مُقابلے دے وچ اوہناں دی کُکم
 نہیں کردا اے۔ صادق ایس گل دی بدولت خُدا دے وچ خُوشی مناووندا اے کیوں جے خُدا
 اوہنوں اوہدیاں ساریاں ویریاں توں بچاوند اے۔ زبور نویس بیان کردا اے پئی خُدا اوہنوں اپنے
 کرم دے نال سپر دی طرح ڈھک لوئے گا۔ او خُدا دی اپنیاں لوکاں دے لئی محافظت نوں
 ایویں بیان کردا اے پئی خُدا اپنیاں لوکاں نوں ایویں محفوظ رکھدا اے جیویں مُرغی اپنیاں
 پچیاں نوں اپنیاں پراں دے ہٹھاں لکا لیندی اے اوویں ای خُدا وی اپنیاں لوکاں نوں اپنی
 پناہ دے وچ رکھدا اے۔ جدوں کوئی شکاری پرندہ یا کوئی جانور مُرغی دیاں پچیاں دے اُتے حملہ
 کردا اے تے اونس کے اپنی ماں دے کول آجاندے نے تے او اپنیاں پراں نوں کھول
 دیندی اے تاں پئی اوہدے بچے اوہناں دے ہٹھاں لگ جاوے۔ او اپنی ماں دیاں کھمباں ہٹھاں
 اپنے آپ نوں محفوظ خیال کردے نے۔ ایویں ایس خوبصورت مثال نوں بیان کردیاں ہوئیاں
 خُدا دی محبت نوں بیان کیتا جاندا اے۔

تے فیر اخیری آیت دے وچ ایویں لکھیا ہويا اے پئی:

کیوں جے تُو صادق نوں برکت دیویں گا

اے خُداوند! تُو اوہنوں کرم دے نال سپر دی طرح ڈھک لیویں گا۔

خداوند اپنے طالب نون اپنیاں برکتاں دے نال نوازدا اے۔ ایس آیت دے اخیرى حصے دے
وچ لکھیا ہویا اے پئی خداوند اپنے خادم نون اپنے کرم دے نال سپردی طرح ڈھک لوئے گا۔
جدوں لوکی جنگ دے لئی جاندا سن تے اوہدے جنگی لباس دے وچوں اک اہم شے داناں
سپردا سی۔ ایہہ اک طرح دی چمڑے دے نال بنی ہوئی چادر ہندی سی جنوں اک سورما یا
جنگی مرد اپنے جسم دے اُتے پالیندا سی۔ تے جدوں اوہدا ویری اوہدے اُتے تلوار دے نال وار
کردا سی تے او اوہدے اُتے اثر نہیں کردی سی۔ ایویں او اپنیاں ویریاں دے حملے توں محفوظ
رہندے سن۔

خداوند اپنیاں لوکاں دی ڈھال تے سپردا اے۔ جیویں مرغی اپنیاں پچیاں نون اپنیاں کھمباں
دے پٹھاں لکا لیندی اے اوویں ای خدا اپنیاں لوکاں نون لکا لیندا اے۔ اوویں ای خدا
اپنیاں لوکاں نون اپنے کرم دے نال سپردی طرح ڈھک لوئے گا۔ ایس لئی ہمیشہ ایس گل
نون یاد رکھو تے ہمیشہ خدا دی ڈھال تے اوہدی سپردی پٹھاں اپنی جیاتی نون بسر کرو۔
اوہدے وچ جیاتی لنگاوندیاں ہوئیاں سانوں خوشی حاصل ہندی اے تے خوشی دا بڑا سوہنا
اظہار گاوندیاں ہوئیاں وی کیتا جاندا اے۔ بہت سارے لوکی جدوں خوش ہندے نے تے او
گانے گاندے نے۔ میں ذاتی طور تے جدوں بہت ای خوش ہندا آں تے میں زبور گاوندا
آں۔

زبور ۵ دے وچ اسی ویکھدے آں پئی ایہہ صرف دُعا ای نہیں اے جنوں اسی پرستش دے
وچ خُدا دے حضور دے وچ پیش کردے آں سگوں ایہہ اک آئینہ اے جمدے وچ اسی
انسانیت نوں خُدا دے بغیر ویکھ سکدے آں۔ ایویں اسی ایس گل دا اندزہ کرسکدے آں پئی
جے خُدا دے ولوں تحفظ نہ ہوئے تے انساناں دا کیہ حال ہوئے گا۔ تے اسی ویکھدے آں پئی
جدوں انسان خُدا دے بغیر اپنی حیاتی بسر کردا اے تے اوہدے بارے دے وچ ایویں لکھیا ہويا
اے:

کیوں جے اوہناں دے مُنہ دے وچ ذرہ سچائی نہیں اے

اوہناں دے من دے وچ صرف شرارت اے

اوہناں دا گلا کھلی ہوئی قبر اے

او اپنی زبان توں خوشامد کردے نے

ایہہ اوہناں لوکاں دے وچ پائیاں جاوَن والیاں خُوبیاں نے جیہڑے خُدا توں بغیر اپنی حیاتی
بسر کردے نے۔ اوہناں دیاں گلاں دے وچ پاپ پایا جاندا اے۔ تے ایہہ نہ صرف خُدا دی نظر
دے وچ اک گھنونا پاپ سی سگوں ایہہ انسانیت دے لئی وی تکلیف دا سبب سی۔ ایس لئی اسی
جدوں نویں عہد نامے دے وچ زبورال دا مُطالعہ کردے آں تے ایہہ صرف خُدا دے حضور
دے وچ دُعا ای نہیں اے سگوں ایہناں نوں ورتدیاں ہوئیاں اسی اپنے آپ نوں پرکھ وی
سکدے آں۔ تے ایویں اسی ایہناں نوں اوس ویلے وی جدوں اسی اپنیاں ویریاں دی وجہ توں

مُصیبت دا شکار ہندے آں رہائی تے نجات دے لئی وی ورتدے آں۔ تے میں اک گل کرنا
چاہندا آں پئی کئی واری اسی آپ اپنے سب توں وڈے ویری ہندے آں۔ بہت ساریاں
مسئلیاں تے مُشکلاں دے آون دی وجہ اسی آپ ای ہندے آں۔ کئی واری اسی جانڈیاں
ہوئیاں وی کجھ غلط کماں نوں کردے آں۔ ایس لئی میں بہت واری خُدا توں منت کردا آں پئی
تُو میری مدد کر پئی میں ایہنوں نہ کراں۔ تُو میری مدد کر پئی میں اپنی جیاتی دے وچ صرف
اوہناں کماں نوں کراں جہناں دے وچ تیری مرضی شامل ہوئے۔ بھائیں جے اسی اپنے آپ
نوں ہر طرح دے نال کامل نہیں پاسکدے آں پر اسی آپ نوں جان سکدے آں۔ تے
میں جدوں وی جنے وی مُشکل حالات دے وچ ہندا آں میں خُدا توں ای منت کردا آں تے
او مینوں جواب دیندا اے۔ خُدا میری مدد کردا اے تے مینوں بار نکلیں دا راہ دکھاوندا اے۔
او میرے ذہن دے وچ اوہناں ساریاں گلاں نوں پادیندا اے جہناں دے بارے دے وچ
میں اپنی سمجھ دے نال خیال نہیں کر پاوندا آں۔

ہمیشہ ایس گل نوں یاد رکھو پئی خُدا دی ڈھال تے اوہدی سپردے پیٹھاں اپنی جیاتی نوں بسر
کرو۔ ایویں کردیاں ہوئیاں تہانوں کدی وی اپنی محافظت دے بارے دے وچ پریشان نہیں
ہونا پوئے گا۔ سگوں ایہدے اُلٹ تسی خُداوند دے وچ خوشی تے شادمانی دی جیاتی بسر کرو
گے تے ایہہ خوشی تے شادمانی ابدی ہوئے گی۔ بھائیں جے تسی اپنیاں ویریاں دے بارے دے
وچ وی پیہڑا نہیں چاہندے ہوو گے تے تسی ایہہ نہیں چاہندے ہوو گے پئی اوہناں نوں

برباد کر دتا جاوئے۔ تاں وی تہانوں اوہناں دے ولوں مخالفت دا سامنا ہندا اے تے ایہہ ای
فرق اے جیہڑا اوہناں تے خُدا دیاں لوکاں دے وچ پایا جاندا اے۔

ایس زبور دے وچ اسی ویکھدے آں پئی خُدا دا بندہ اپنیاں ویریاں دے لئی خُدا توں بربادی
منگدا اے تے چاہندا اے پئی خُدا اوہناں دی عدالت کرے تے اوہناں نوں سزا دیوئے۔ پر
جدوں اسی خُداوند یسوع مسیح دے وچ ہندے آں تے اوہناں تہدیل کردا اے۔ تے اسی
ایس زبور دی ۱۰ آیت دے وچوں ویکھدے آں پئی دسویں آیت دے وچ اوہناں نوں
گناہگار ثابت کیتا جاندا اے تے فیر گیارہویں آیت دے وچ اوہناں دے بارے وچ گل کیتی
گئی اے جیہڑے خُدا دے وچ پناہ لیندے نے۔ اسی سارے ایس توں پہلاں ویریاں دے وچ
ای گنے جاندے سی۔ پر اسی ویکھدے آں پئی خُدا دے پتر ساڈے خُداوند یسوع مسیح دی
رائیں اسی سارے دھوئے تے پاک کیتے گئے آں۔ سانوں اوہدے وہڈے فضل دی وجہ توں رہائی
تے آزادی ملی اے۔ تے سب توں اہم تے وہڈی گل ایہہ ہے پئی اوہنے ایہہ سانوں بالکل
مُفت عطا کیتی اے۔ اوہنے ایہدی کوئی قیمت نہیں ٹھہرائی اے یا ایویں نہیں آکھیا اے پئی
تہانوں فُلاں فُلاں کم نوں کرنا پونے گا تاں پئی تہسی گلتی پاسکو۔ سگوں اوہنے ایہنوں ہر اک
دے لئی مُفت فراہم کیتا اے تاں پئی ہر کوئی ایہنوں پاسکے تے ایس ہمیشہ دی جیتی دے وچ
داخل ہو سکے۔ اوہنے ساڈے لئی ایس وہڈے بوہے نوں کھول دتا اے تاں پئی ہر کوئی ایہدے
وچ بلا روک ٹوک آوئے تے داخل ہو جاوئے۔ او اسی آج دی ساری گل بات نوں اتھے ای

مُکاوندے آں تے خُدا دا شُکر ادا کردیاں ہوئیاں اوہدے توں اپنے لئی مدد منگدے آں۔ او اسی
دُعا کرئیے:

خُداوند ساڈے اَسْمانی باپ اسی تہہ دل توں تیرا شُکر ادا کردے آں ایس سوہنی آزادی دے لئی
جیہڑی اسی تیرے وچ رکھدے آں۔ ایس پناہ تے تحفظ دے لئی پئی تُو سانوں اپنے کرم دے
نال سپر دی طرح ڈھک لیویں گا۔ تیرا شُکر ادا کردے آں پئی تُو ساڈی سپر، ساڈی پناہ تے
ساڈی ڈھال ایس تے ایس گل دے لئی پئی تُو سانوں اپنیاں پراں دے بیٹھاں لکا لیندا ایس تاں
پئی سانوں محفوظ رکھیں۔ اسی اپنیاں جیاتیوں دے وچ تیری شمولیت تے ایس رسائی دے لئی
تیرا شُکر ادا کردے آں۔ خُداوند اسی آون والے سارے ویلے دے لئی تیرے توں منگدے آں
پئی بخش اسی اپنیاں ساریاں ویریاں نوں دل توں مُعاف کر سکنیے تے تیری مرضی نوں اپنی
جیاتی دی رائیں پُورا کرئیے۔ سانوں سَنکھا پئی اسی تیرے توں ای منگئیے تے جیویں اسی اَج
دے زبور دے وچوں سَنکھیا اے اسی تیرے وچ ای شادمانی حاصل کرئیے تے تیری پناہ دے
وچ سَنکھے۔ ایہناں ساریاں لوکاں دے لئی میں تیرا شُکر ادا کردا آں جیہڑے ایس ویلے ساڈے
نال ہین۔ میں تیرے توں منت کرداں پئی تُو ایہناں اپنے ناں دی خاطر برکت دے تے اپنے
جلال دے لئی ورت۔ بخش پئی اسی تیری سیوا کردیاں ہوئیاں تیرے سوہنے پتر دی پیروی
کرئیے۔ اسی ایہہ سارا کُجھ اوہدا ای ناں لیندیاں ہوئیاں منگدے آں آمین۔

آئیے ہم خُداوند کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تاکہ آج کے اِس سارے وقت کے لیے اُس سے مدد اور راہنمائی مانگیں۔ آئیے ہم دُعا مانگیں:

خُداوند زمین آسمان کے مالک مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ ہم تیری محبت، تیرے پاک روح اور تیرے پاک کلام کے لئے شکر گزار ہیں۔ ہم اُن تمام نعمتوں کے لئے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں تیرے پیار کا ثبوت ہیں اور اِس بلاؤں کے لئے بھی کہ تُو نے ہمیں اپنے پٹے بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے۔ بخش اور ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو سیکھتے ہوئے سمجھ سکیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو ہمارے ساتھ نرمی سے گفتگو کرتا ہے۔ تُو ہمیں ہماری ضروریات سے بڑھ کر ہمیں مہیا کرتا ہے۔ تیرے پاک کلام کے لئے شکر کرتے ہیں جو ہماری روح کی خوراک ہے اور ہماری روزمرہ زندگی کے لئے راہنمائی ہے۔ بخش کہ ہم تجھ میں آگے بڑھ سکیں اور تیرے لئے خوشی اور شادمانی کا سبب بن سکیں۔ ہم اپنی رہن سہن اور طرز زندگی سے تیرے پٹے ہمارے خُداوند یسوع مسیح کے لئے جلال کا سبب بن سکیں۔ ہم آج کے اِس وقت کے لئے تجھ سے ہی مدد اور برکت مانگتے ہیں اور یہ سب کچھ تیرے پیارے پٹے ہمارے خُداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہوئے مانگتے ہیں آمین۔

ہم کچھ عرصہ سے مزامیر کے تعلق سے بات چیت کر رہے ہیں اور ابھی اس وقت ہم پانچویں زبور کے بارے میں بات کرنے کو ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں گزشتہ بیان کردہ مزامیر کے تعلق سے کچھ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں۔

سب سے پہلے ہم نے پہلے زبور پر غور کیا تھا جو کہ ایک مبارک شخص کے بارے میں بیان کرتا ہے جسے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسے درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو۔ یہ پانی کی ندیاں اُس میں ہمیشہ تک قائم رہنے والے زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ اُس کی بنیاد مضبوط ہے اور وہ اپنے وقت پر پھل دیتے ہوئے اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ یوں ایک ایسی زندگی بسر کرتے ہوئے آپ خُدا کے پیار اور اُس کے فضل میں بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ کی افزائش بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ آپ کے پھلدار ہونے کی ضمانت ہے۔ آپ خُدا کے کلام اور اُس کے فضل میں مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اور اُس میں بڑھتے جاتے ہیں۔ یوں پہلا زبور خُدا میں قائم شخص کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص خُداوند میں قائم ہے تو اُس کی زندگی کس قدر بھرپور دکھائی دے گی۔

اس کے بعد ہم نے دوسرے زبور پر بات کی تھی اور اُس میں ہمیں خُدا کی بادشاہت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم زبور ہے جس میں خُدا کے بیٹے مسیح کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے۔ جس میں لکھا ہے کہ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مُقدس پر بٹھا چکا ہوں۔ اس میں خُدا اور اُس کے مسیح کا بیان پایا جاتا ہے اور خُدا کی جانب سے لوگوں کی عدالت کے بارے میں بھی ہم

اس میں سے دیکھتے ہیں۔ پہلے زبور میں ہم نے خُدا کی جانب سے ایک مُبارک شخص کو عطا کردہ اندورنی زندگی پر غور کیا تھا اور دوسرے زبور میں ہم خُدا کے اختیار کی بابت غور کرتے ہیں۔ اس زمین پر ہر ایک شخص جو کچھ اختیار رکھتا ہے وہ خُدا کے اختیار تلے ہے اور خُدا اُسے دیکھتا ہے۔

اس کے بعد ہم نے آگے بڑھتے ہوئے تیسرے زبور پر بات کی تھی۔ جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ داؤد اپنے بیٹے ابی سلوم کی وجہ سے اپنا شہر اور تخت چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ اُسے ایک بڑی مُصیبت کا سامنا ہوتا ہے اور وہ خُدا سے مدد کی درخواست کرتا ہے۔ یوں اس تیسرے زبور میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ اگرچہ ہم بہت زیادہ خطرناک صورتِ حال میں گرفتہ ہوں خُدا ہمیں بحال کرنے کی قُدرت رکھتا ہے۔ ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں اور اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں۔ لیکن بہت بڑی تسلی کی بات یہ ہے کہ خُدا ابھی بھی ہمارے زندگیوں میں شامل ہونے اور ہمیں تبدیل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، یوں وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔

جب ہم چوتھے زبور کی جانب بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مُشکل میں مُبتلا ہوتے ہیں اور ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں لوگوں کی جانب سے مختلف الزامات کا سامنا ہوتا ہے کہ ہم نے ضرور گناہ کیا ہے جس کی سزا میں ہمیں اس مُشکل کا سامنا ہے۔ لیکن درحقیقت ہمارے اوپر آنے والی مُشکل یا مُصیبت کا تعلق

ہمارے گناہ یا خطا کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے پس پردہ خدا کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے اور وہ ان حالات میں بھی ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن لوگ اس بات کو سمجھے بغیر ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ ہم خطاکار ہیں اور ہم نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے اور اسی لئے ہمیں اس سزا کا سامنا ہے۔ لیکن زبور نویس انہیں جواب دینے کی بجائے خدا سے اپنی تمام درخواستوں کو پیش کرتا ہے اور اُس سے مدد کے لئے منت کرتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہے جو اُسے ستاتے ہیں اور اُسے بے جا دکھ دیتے ہیں۔ وہ اپنا بھروسہ خدا پر رکھتا ہے اور اپنی کمک کے لئے اُسے پکارتا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اُس کی کمک اب نہ ہوگی۔ لیکن جب وہ خداوند اپنے خدا سے تسلی پاتا ہے تو وہ اپنے اندر پائے جانے والے اُس الہی اطمینان کا اظہار کرتا ہے اور اُن لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے جو اُس کے خلاف بولتے ہیں۔ وہ خداوند اپنے خدا پر اپنے کامل توکل کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس زبور میں صداقت کی قربانیوں کے تعلق سے کچھ بات چیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس زبور میں پائے جانے والے الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اور اس سے گزشتہ زبور میں ایک جیسی صورت حال پائی جاتی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ملتی ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں اپنا توکل خداوند اپنے خدا پر رکھتا ہے۔

تو ابھی وقت ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنی راہنمائی کے لئے اگلے زبور یعنی پانچویں زبور کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ خدا اس زبور میں کس طرح سے ہماری راہنمائی کرنا چاہتا ہے۔

زبور پانچ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صورتِ حال کُچھ اِس سے ملتی جلتی ہی ہے لیکن یہاں پر ہمیں زبور نویس کے دُشمنوں کے بارے میں کُچھ وضاحت کے ساتھ نہیں ملتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اُس کی اِس مُصیبت کا سبب بنے ہوئے ہیں کہ وہ خُدا کے سامنے اپنی فریاد کرنے پر مجبور ہے اور وہ اُس سے کہہ رہا ہے کہ تُو میری مدد کر اور میرے دُشمنوں کو برباد کر۔ اِس زبور میں زبور نویس خُدا کو بطور ایک حُکمران پُکار رہا ہے اور وہ اُسے کُچھ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ وہ خُدا کے سامنے کُچھ کاموں کو رکھتا ہے کہ وہ اُس کی مدد کرتے ہوئے یہ یہ کرے جیسے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ خُدا کو اپنے دُشمنوں کی عدالت کرنے کو کہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شریر اُس کے مُعاشرے میں سے فنا ہو جائیں اور خُدا اُنہیں باہر نکال پھینکے۔ یوں وہ بیان کرتا ہے کہ راستباز کے لئے خُدا کے حضور میں شادمانی پائی جاتی ہے لیکن خُدا شریروں کی عدالت کرے گا اور اُنہیں اُن کے کئے کے مُطابق سزا دے گا۔

تو آئیے ہم اِس زبور میں سے اپنی راہنمائی کے لئے مزید کُچھ باتوں پر غور کرتے ہیں۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس اِس زبور کے تُلُوق سے کُچھ تحریری مواد پایا جاتا ہے جس کی راہنمائی میں ہم اپنی آج کی بات چیت کو کریں گے۔

پہلے صفحے پر ہمارے پاس اِس زبور کا عبرانی زبان میں سے کیا گیا ترجمہ پیش خدمت ہے جس میں نے آپ کے لئے کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اِس ترجمہ میں ہمارے پاس الفاظ کی ترتیب

کچھ مختلف ہے۔ میں نے ایسا اس لئے کیا ہے تاکہ ہم وضاحت کے ساتھ دیکھ سکیں کہ زبور نویس کون کون سی باتوں اور کون کون سے الفاظ پر زور دیتا ہے۔

تو آئیے ہم باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو خداوند کے پاک کلام میں زبور پانچ میں یوں لکھا ہوا ہے:

میرے مغنی کے لئے بانسلیوں کے ساتھ داؤد کا مزموور

(میری باتوں کو سُن اے میرے خُدا)

اے خُداوند میری باتوں پر کان لگا!

میری آہوں پر توجہ کر!

(وہ اپنی درخواست کو آغاز ہی براہ راست خُدا سے مخاطب ہوتے ہوئے یوں کرتا ہے کہ اے

خُداوند میری باتوں کو سُن اور میری آہوں کی جانب متوجہ ہو)

اے میرے بادشاہ! اے میرے خُدا! میری فریاد کی طرف متوجہ ہو۔

کیونکہ میں تجھ ہی سے دُعا کرتا ہوں۔

اے خُداوند! تُو صُبح کو میری آواز سُنیگا

(میں صُبح سویرے ہی اپنا مُعاملہ لے کر تیرے حضور میں حاضر ہو جاؤں گا اور اُسے تیرے

سلنے پیش کروں گا اور پھر میں انتظار کروں گا کہ تُو میرے حق میں جواب دے)

میں سویرے ہی تجھ سے دُعا کر کے انتظار کروں گا

کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو

بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی

گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہونگے

(یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تین دفعہ نہیں کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو شرارت سے خوش نہیں

ہوتا، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی اور پھر گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہونگے۔ یہ وہ

باتیں بیان کی گئیں ہیں جنہیں خدا پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ خدا کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ تو یہ یہ

نہیں کرتا ہے یا تو ان ان باتوں کو پسند نہیں کرتا ہے)

تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے

تو انکو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا

خداوند کو خوشخوار اور دغا باز آدمی سے کراہیت ہے۔

(یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ زبور نویس خدا کے بارے میں کچھ تعارفی باتوں کا بیان

کرتے ہوئے پھر دھیما لہجہ اختیار کرتا ہے اور راستباز شخص کے تعلق سے کچھ بیان کرتا

ہے۔ اور ساتویں آیت میں خدا سے یوں مخاطب ہوتا ہے)

لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤنگا۔

(یوں وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خدا کی شفقت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے)

میں تیرا رعب مان کر تیری مقدس ہیبل کی طرف رخ کر کے سجدہ کرونگا۔

اے خُداوند! میرے دُشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا۔

میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے

(وہ خُدا سے اپنی تمام راہوں میں اُس کا ساتھ چاہتا ہے۔ وہ خُدا سے مدد چاہتا ہے کہ کہیں

وہ اپنے دُشمنوں کے سبب سے اپنی سیدھی راہ سے بھٹک نہ جائے)

کیونکہ اُن کے مُنہ میں ذرہ سچائی نہیں۔

اُنکا باطن محض شرارت ہے۔

اُنکا گلا کھلی قبر ہے۔

وہ اپنی زبان سے خُشامد کرتے ہیں۔

اے خُدا تو اُن کو مجرم ٹھہرا

وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں

اُن کو اُن کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے

کیونکہ اُنہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔

لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں۔

وہ سدا خُوشی سے للکاریں کیونکہ تو اُن کی حمایت کرتا ہے

اور جو تیرے نام سے مُجبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں

کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا۔

اے خُداوند! تُو اُسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔

خُداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سُنے جانے پر اُس کی برکت ہو۔ خُداوند کا شکر ہو۔
ہم اِس زبور کو مختلف حصوں میں بانٹتے ہوئے اِس کی ہر ایک آیت پر غور کریں گے۔ تو سب
سے پہلے ہم اِس کی ابتدائی اِن آیات کو دیکھیں گے:

اے خُداوند میری باتوں پر کان لگا!

میری آہوں پر توجہ کر!

اے میرے بادشاہ! اے میرے خُدا! میری فریاد کی طرف متوجہ ہو۔

کیونکہ میں تجھ ہی سے دُعا کرتا ہوں۔

اے خُداوند! تُو صُبح کو میری آواز سُنیگا

میں سویرے ہی تجھ سے دُعا کر کے انتظار کرونگا

پہلی آیت میں استعمال کیا جانے والا لفظ آہ بہت ہی اہمیت کا حامل جو یہاں پر دُکھ درد اور غم

کی حالت کا بیان کرتا ہے۔ یہ اُس صورت حال کا بیان کرتا ہے جب آپ اپنی غمگینی اور دُکھ

کی حالت میں خُدا کو پُکارتے ہیں۔ آپ چونک جاتے ہیں، آپ ایک دم پریشانی میں مُبتلا

ہو جاتے ہیں۔ آپ کا دُکھ شدت اختیار کر جاتا ہے اور آپ بُری طرح سے اُلٹھن کا شکار ہو جاتے

ہیں۔ آپ اِس حالت میں اُمید کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی حالت پر ترس کھائے اور آپ کو

اِس سے نجات دلائے۔ یوں یہ آیت اِس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ زبور نویس اپنی التجا خُدا

کے حضور میں پیش کرتے ہوئے آہیں بھر رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے خُدا سے اپنی رہائی کے لئے منت کر رہا ہے۔

اور پھر دوسری آیت میں ہمیں بادشاہ یعنی ملک اور خُدا یعنی لیلوہیم کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس پر بہت دفعہ غور کیا ہے اور ہم نے مختلف مضامین میں ملکِ صدق اور خُدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے لیلوہیم کا ذکر سنا تھا۔ پُرانے عہد نامے میں خُدا کے بارے میں ہمیں یہوواہ نام کا ذکر ملتا ہے جو کہ خُدا کا بہت ہی مُقدس نام ہے۔ خُدا نے اپنے آپ کو موسیٰ پر اسی نام سے ظاہر کیا تھا اور یوں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ یہوواہ خُدا کا ذاتی نام ہے۔ جب بھی ہم خُدا کو اُس کے اس ذاتی نام یہوواہ سے پُکارتے ہیں تو ہم اُسے یہ یاد دلاتے ہیں کہ خُدا نے ہمارے ساتھ ایک عہد باندھا ہوا ہے۔ اُس نے ہمارے ساتھ ایک ابدی عہد باندھا ہے۔ یوں جب بھی ہم خُدا کو اُس کے ذاتی نام یہوواہ سے پُکارتے ہیں تو ہم اُسے اس بات کو یاد دلاتے ہیں کہ اے خُدا ہم تیرے لوگ ہیں اور اپنے اُس عہد کی بدولت تو ہمیں اپنی عجیب قُدرت کے ذریعے بچا۔

یوں یہ خُدا کا بہت ہی مُقدس اور ذاتی نام ہے لیکن جب ہم خُدا کو بطور لیلوہیم پُکارتے ہیں تو ہم اُسے بطور مُنصف، بادشاہ یا حاکم پُکارتے ہیں یوں لیلوہیم خُدا کا خطاب ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم انگریزی لفظ لارڈ استعمال کرتے ہیں جس کا پہلا حرف یعنی ایل بڑا ہوتا ہے تو اس سے مُراد ایڈونائی یعنی مالک ہے جسے خُداوند کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب

ایللیاہ کا خادم اُسے پُکارتا تھا تو وہ اُس کے لئے لفظ ایڈونائی استعمال کرتا تھا یعنی وہ اُسے خُداوند
 کہتا تھا۔ اِس کے علاوہ ہمیں پُرانے عہد نامے میں سے بے شمار بار یہواہ کے لئے یہ لفظ
 استعمال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ مالک اور ہمارا خُداوند بھی ہے۔ زبور نویس خُداوند کے
 حضور اپنی فریاد کو پیش کرتے ہوئے مختلف الفاظ کو استعمال کرتا ہے وہ اُسے بادشاہ، خُداوند،
 یہواہ اپنا مالک کہہ کر پُکارتا ہے۔ عبرانی میں ہمیں ملکِ صدق کا ذکر ملتا ہے جس کا ترجمہ
 راستبازی کا بادشاہ ہے اور پھر ایلوہیم حکمرانی کے معنوں میں آتا ہے۔ جب کوئی شخص خُدا کو
 خُداوند کہہ کر پُکارتا ہے تو وہ اُس کے ساتھ اپنے خاص تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ جب ہم خُدا کو
 بطور ایلوہیم پُکارتے ہیں تو ہم اُسے یہ کہتے ہیں کہ وہ بطور حاکم ہمارے معاشرے میں اپنا
 کردار ادا کرے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جب ہم انگریزی لفظ لارڈ کے
 بارے میں بات کرتے ہیں جس کا پہلا حرف ایل بڑا ہوتا ہے تو اِس سے مُراد مالک یا آقا ہے
 اور اِس انگریزی لفظ لارڈ کا عبرانی ترجمہ ایڈونائی ہے۔ جب ہم پُرانے عہد نامے میں سے ایشع
 کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہاں پر اُس کے خادم اُسے ایڈونائی کے نام سے پُکارتے ہیں جس سے مُراد
 وہ اُسے اپنا آقا اور اپنا مالک کہہ کر پُکارتے تھے۔ جس طرح کہ آج ہم معززین کو مخاطب
 کرتے ہوئے سر یا میڈم کہتے ہیں۔ یہ الفاظ کسی کے لئے ہمارے دل میں پائی جانے والی عزت
 کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس اِن تمام الفاظ کو خُدا کے لئے
 استعمال میں لاتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خُدا ہی ساری کائنات کا مالک ہے اور وہ ہی ہے جو

اس وسیع و عریض کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اُس نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدے کئے جنہیں اُس نے ایک ایک کر کے پورا کیا ہے۔ وہ وعدوں کا سچا خُدا ہے اور اُس نے اپنے تمام وعدوں کو اپنے پیارے بٹے ہمارے خُداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے پورا کیا تھا۔ اور یوں ہمارے خُداوند یسوع مسیح نے ہی ہمیں یہ حق بخشا ہے کہ ہم خُدا کو اپنا باپ کہہ کر پُکار سکتے ہیں۔ ہم اُس کے ساتھ قائم اپنے تعلق کی بدولت اُسے اپنا دوست کہہ سکتے ہیں۔ ہم اُس کے بارے میں جان سکتے ہیں اور یوں ہم اُس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی بدولت اُس کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ہر ایک کام میں اُس سے راہنمائی مانگ سکتے ہیں اور کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اُس سے مدد مانگ سکتے ہیں تاکہ ہم اُسے پورا کر سکیں۔ ہمیں اُسی کی مرضی کو اول درجہ دینا چاہیے اور جس بات میں اُس کی خُوشی شامل نہ ہو اُس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہم اُس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا ہے۔ ہم اُس سے اس طرح بات کر سکتے ہیں جس طرح ہم اپنے کسی دوست یا خاندان کے فرد کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آپ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ اُس کے بارے میں اُن تمام باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ اُسے کیا کُچھ اچھا لگتا ہے اور کونسی باتیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اس حوالے میں زبور نویس خُدا یعنی یہواہ اور اپنے بادشاہ یعنی ملک کے سامنے اپنی التجا کو رکھتا ہے۔ اور وہ لیلوہیم یعنی اس کائنات کے حاکم کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اُس سے اپنے لئے مدد مانگتا ہے۔ لیکن اہم بات

یہ ہے کہ وہ خُداوند اپنے خُدا کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے۔ وہ اُسے پُکارتے ہوئے یہ نہیں کہتا ہے کہ اے میرے قوم کے خُدا، اے میرے قبیلے کے خُدا یا اے میرے لوگوں کے خُدا بلکہ وہ کہتا ہے کہ اے میرے خُدا! اے میرے بادشاہ!

وہ خُدا کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات کا اظہار کرتا ہے اور وہ خُدا کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ خُداوند میں تیرا بندہ ہوں اور میری مدد کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ اس لئے میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تُو میرے لئے یہ کام کر۔ جیسے کہ میں جب خُدا کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میں اُس سے یوں مخاطب ہوتا ہوں کہ اے خُداوند میرے خُدا میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تُو اپنی وفاداری کو مجھ پر ظاہر کر اور تیرے بٹے کے وسیلہ سے پورے کئے گئے تیرے تمام وعدوں کے لئے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اُس سے بات کرتے ہوئے اُسے وعدوں کا وفادار خُدا کہہ کر پُکارتا ہوں کیونکہ وہ اپنے بٹے کے وسیلے سے اپنے تمام وعدوں کو پورا کرتا ہے تاکہ اپنی بادشاہی کو قائم کرے۔ اور وہ اُس کے نام کے جلال کے لئے اُس کے وسیلہ سے قوموں کو برکت دیتا ہے۔ یوں زبور نویس یہاں پر خُدا کو اُس کے وعدوں کی یاد دلاتا ہے کہ تُو وعدوں کا سچا خُداوند ہے اور یہ تیرا وعدہ ہے کہ تُو اپنے پُکارنے والوں کو جواب دیتا ہے۔ اور میں تجھے اے میرے بیہواہ اے میرے بادشاہ اور اے میرے وعدوں کے سچے خُداوند اپنی مدد کے لئے پُکارتا ہوں۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ وہ خُدا کو یوں پُکارتا ہے کہ اے میرے خُدا اے میرے بادشاہ، وہ خُدا کے ساتھ اپنے شخصی تعلق کا بیان کرتا ہے۔ اور وہ یہاں پر صرف خُدا

کو پُکار ہی نہیں رہا ہے بلکہ وہ خُدا کے سامنے انتہائی انکساری کے ساتھ حاضر ہے۔ اُس کے الفاظ میں اُس کی شکستگی اور اُس کی آہیں بھی شامل ہیں۔ اور وہ خُدا کو پُکارتے ہوئے کہتا ہے

اے خُداوند میری باتوں پر کان لگا!

میری آہوں پر توجہ کر!

اے میرے بادشاہ! اے میرے خُدا! میری فریاد کی طرف متوجہ ہو۔

وہ خُدا کو اپنا خُدا اور اپنا بادشاہ کہتے ہوئے اُسے متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اُس کے بارے میں جانتا اور یقین رکھتا ہے کہ وہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اسی لئے وہ خُدا سے التجا کرتے ہوئے اُس سے شریروں کی عدالت کرنے کے بارے میں کہتا ہے اور وہ اُسے یاد دلاتا ہے کہ خُدا اے میرے خُدا! اے میرے بادشاہ! تجھے یہ کام اور یہ یہ لوگ پسند نہیں ہیں اس لئے اب تُو ان لوگوں کی عدالت کر اور اُنہیں مجرم ٹھہرا۔

اور پھر یہاں پر بیان کی گئی آیت میں یوں لکھا ہوا ہے:

کیونکہ تُو ایسا خُدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو

بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی

گھمندی تیرے حضور کھڑے نہ ہونگے

تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے

تُو اُنکو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا

خداوند کو خُونخوار اور دغا باز آدمی سے کراہیت ہے۔

جب ہم چوتھی اور پانچویں آیت پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کچھ باتوں میں نفی کا ذکر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تین بار نہیں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یوں زبور نویس خدا کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ وہ کون ہے یا اے خداوند تو ایسا خدا ہے۔

وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اے میرے خدا تو ایسا ہے اور تو ان باتوں اور ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے اور تو ایسا خدا نہیں ہے، یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو تجھ میں پائی جاسکتی ہیں۔ یوں یہ تیرے کردار میں پائے جانے والے اصول ہیں۔ اور بطور اس کائنات کا

حاکم یہ تمام قوانین تیری شخصیت کا حصہ ہیں۔ اور یہاں پر ہم ایک بار پھر خدا کا تذکرہ اس آیت میں بطور ایلوہیم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر پھر ہمیں اُس کی حاکمیت کے تعلق سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہ تمام آیات جن پر اس حصے میں ہم غور کر رہے ہیں یہ ہمیں اُس حاکم یا بادشاہ

کی ایک تصویر پیش کر رہے ہیں۔ یوں ہمیں اُس کائنات کے مالک خداوند کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ شریروں کے بارے میں یوں بیان کرتا ہے کہ وہ خدا کے حضور میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے اور وہ اُس کے حضور میں قائم نہ رہ پائیں گے۔ کیوں کہ خدا پاکیزگی کا خدا ہے اور جن لوگوں کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ

اُس پاکیزگی کے معیار پر پورے نہیں اُترتے ہیں۔ اس لئے زبور نویس یہاں پر خدا کی

خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ

گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہونگے

تُجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے

تُو اُنکو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا

خُداوند کو خُو نِخوار اور دغا باز آدمی سے کراہیت ہے۔

وہ یہاں پر صرف ان باتوں کو ہی بیان کرتا ہے جو خُدا کو پسند نہیں ہیں۔ ایسے لوگ جن سے

خُدا کو سخت کراہیت ہے اور یہ بھی کہ خُدا اُن کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہم انسان ہوتے

ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے ہیں جن سے ہمارے دل کو نفرت ہوتی

ہے۔ ہم کبھی بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھی آئیں۔ خُدا کے

پاک کلام میں بے شمار قوانین پائے جاتے ہیں جنہیں ہم خُدا کے احکامات اور اُس کی شریعت

کے طور پر جانتے ہیں۔ غور کریں کہ آپ خُدا کے لوگ ہوتے ہوئے کس طرح سے اُن پر

عمل کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سے فیصلوں کو کرتے ہوئے کشمکش کا شکار

ہو جاتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ہم جلدی بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خُدا کے احکامات کی خلاف

ورزی کر جاتے ہیں۔ خُدا کے پاک کلام میں ہماری زندگی کے لئے ہر طور سے راہنمائی موجود

ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اُس کی مدد اور راہنمائی میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ جبکہ وہ لوگ

جو خُدا کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے ہیں اُنہیں اپنی زندگی کے لئے بار بار دفاع کی ضرورت

پیش آتی ہے۔ لیکن ایک راستباز شخص خُدا یعنی یلوہیم پر اپنا کامل توکل رکھتا ہے اور وہ خُدا کو

بطورِ اس کائنات کا حاکم تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ میں اُس کا الہی تحفظ محسوس کرتا ہے۔
 ہم نے پہلے بھی اس بات پر غور کیا تھا کہ لیلوہیم خُدا کا ایک خطاب ہے جو وہ اپنے حاکمیت کو
 ظاہر کرنے کے لئے استعمال میں لاتا ہے۔ اور اسی تعلق سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ
 پُرانے عہد نامے میں اسرائیلی بزرگوں کو بھی لیلوہیم کہا جاتا تھا جس میں انہیں بطور ایک
 مُنصف لیا جاتا تھا۔ قابلِ غور بات یہ ہے کہ بہت سی حالات میں جھوٹے معبودوں کے لئے
 بھی لیلوہیم کا ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں زبور نویس کی جانب سے
 عدالت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جو کہ ایک زمینی معاملہ ہے یاد رکھیں کہ جب ہم خُدا کی حضور
 میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ابدی آرام ہوگا تو ہمیں وہاں پر کسی بھی قسم کی عدالت کا سامنا
 نہیں ہوگا۔ یوں عدالت کا کام زمینی طور پر ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ خُدا پاکیزگی کا خُدا
 ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خُدا کا بندہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بدی تیرے ساتھ
 نہیں رہ سکتی ہے اور پھر یہ بھی کہ گھممنڈی تیرے حضور کھڑے نہ رہ سکیں گے۔ جھوٹ
 بولنے والوں کو وہ ہلاک کر دے گا اور خُونخوار اور دغا باز سے اُسے سخت کراہیت ہے۔ یوں
 ان تمام چیزوں اور لوگوں کا خُدا کی حضوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ وہ تمام
 لوگ ہیں جن کا نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جنہوں نے خُدا کے پیٹے کے دیئے
 گئے فدیے کو قبول نہیں کیا ہے اور اُسے اپنی زندگیوں میں داخل ہونے کے لئے دعوت
 نہیں دی ہے۔ جب ہم نجات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق دسویں اور

گیارہویں آیت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم چھٹی آیت کو دیکھتے ہیں تو زبور نویس خُدا سے کہہ رہا ہے کہ یہ یہ باتیں اچھی نہیں ہے، یہ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ سب کچھ تیرے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا ہے اور میں اس بات سے آگاہ ہوں۔

اور پھر اگلی ہی آیت میں وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تجھے کیا کچھ پسند ہے۔ اور ساتویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ اے خُداوند میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤنگا۔ میں تیرا رعب مان کر تیری مُقدس ہیكل کی طرف رُخ کر کے سجدہ کرونگا۔ وہ یہاں پر یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اپنی راستبازی کے سبب سے ایسا کرونگا بلکہ وہ یہاں پر اس بات کا بیان کرتا ہے کہ خُدا کی خصوصیات میں سے ایک اُس کی شفقت بھی ہے جسے وہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور وہ اس شفقت کی کثرت کا یہاں پر اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیری شفقت کی کثرت کے سبب سے تیرے گھر میں آؤنگا۔ میری راستبازی کی کثرت سے نہیں بلکہ خُدا کی شفقت کی کثرت سے میں اُس کے گھر میں آؤنگا۔ خُدا کی حضوری میں جانے کے لئے انسانی راستبازی نہیں بلکہ خُدا کے پیار اور اُس کے فضل کی ضرورت ہے۔ یہ خُدا کے پیار کا عظیم وعدہ ہے جس کی بدولت ہم خُدا کی حضوری میں داخل ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں گناہگار نہیں ہوں اور میں اپنی راستبازی کے سبب سے خُدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں گا۔ یا یوں کہ میں

نے یہ یہ کام کئے ہیں جو اس بات کے لئے کافی ہیں کہ میں خُدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکوں۔ توں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اپنی کسی ذاتی خُوبی کو بیان نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اپنی کسی ذاتی خُوبی کی بڑائی کرتا ہے بلکہ اُس کے اندر پائے جانے والے خُدا کے خوف کی ایک جھلک یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ یہاں پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خُدا مہربان خُدا ہے اور اُس کی شفقت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے جس میں ہمیں اُس کی حضوری میں اُس تک رسائی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ہی وہ وجہ ہے کہ وہ خُدا کی تعریف کرتا ہے اور اُس کی شفقت کا یہاں پر اس آیت میں اظہار کرتا ہے۔ اور پھر اس آیت کے اگلے حصے میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خُدا کا بندہ داؤد یوں بیان کرتا ہے کہ :

میں تیرا رعب مان کر تیری مُقدس ہیکل کی طرف رُخ کر کے سجدہ کرونگا۔

اُس کے اندر خُدا کا خوف پایا جاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ خُدا مہربان ہے اور وہ رحم کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ خُدا کی اسی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اُس کے گھر میں جانے کی بابت بات کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اُس کی شخصیت کامل نہیں ہے اور وہ اپنی خصوصیات کی بدولت خُدا کے گھر میں جانے کے قابل نہیں ہے لیکن خُدا کی طرف سے عطا کردہ مُعافی اور رحمت اُس کا حوصلہ بڑھاتی ہیں کہ وہ خُدا کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے اسی لئے وہ یہاں پر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں خُدا کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے اُس کی مُقدس ہیکل کی طرف رُخ کر کے سجدہ کرونگا۔

ہم میں سے کوئی بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ خدا کی پاک حضوری میں داخل ہونے کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ خدا اس بات سے واقف ہے اسی لئے اُس نے انسانیت کے ساتھ اپنے پیار کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے پیارے بچے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہمیں مُعافی اور اپنی پاک حضوری تک رسائی کا شرف بخشا ہے۔ دُنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں پایا جاتا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں بے گناہ ہوں۔ پاک کلام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس دُنیا کی تاریخ میں صرف ایک ہی ایسی ہستی پائی جاتی ہے جس میں کوئی گناہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اُس نے خود بلند آواز سے یہ کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے۔ اور یہ ہستی خدا کا پیارا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جس میں ہماری نجات اور رہائی پائی جاتی ہے۔

آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آٹھویں آیت میں یوں لکھا ہے۔
اے خداوند میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا
میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے۔

یہاں پر عبرانی زبان میں جو لفظ دشمنوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے اُس سے مراد وہ لوگ ہیں جو راہوں میں چھپ جاتے ہیں تاکہ کسی پر چھپ کر وار کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر راہ کے کنارے جھاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ سایہ دار درخت اور جری بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جن لوگوں کو دشمنوں کے معنوں میں بیان کیا گیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو

دوسروں کی راہوں میں چھپ جاتے ہیں تاکہ جب وہ وہاں سے گزریں تو انہیں پریشان کریں یا ہلاک کریں، یہ وہ دشمن نہیں ہیں جو سرعام مقابلے کے لئے اترتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ خدا کے حضور میں اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ یہوواہ میرے خدا تو میرے راستوں کو اس طرح سے ترتیب دے کہ وہ صاف اور شفاف ہوں اور ان میں میرے دشمنوں کو اپنے پچھنے کے لئے جگہ نہ ملے۔ تاکہ وہ مجھے یا دوسرے لوگوں کو پھنسا نہ سکیں اور گھات لگا کر نہ بیٹھ سکیں۔ جیسا کہ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یرمیاہ ۳۱ باب کی ۹ آیت میں یوں مرقوم ہے :

وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے

میں ان کی راہبری کرونگا

میں انکو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤنگا جن میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرائیم میرا پہلو ٹھا ہے۔

یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے خداوند میرے خدا میں مُصیبت میں ہوں۔ میرے دشمن میرے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں اور مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ مجھے تباہ کر دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ خدا سے درحقیقت یہ کہتا ہے کہ میں حقیقی معنوں میں اس بات کا شدت سے خواہش مند ہوں کہ تو میری زندگی کی تمام راہوں کو صاف

کر دے۔ وہ خُدا کو اپنا خُدا اور اپنا بادشاہ کہہ کر پُکارتا ہے اور اِس بات کی درخواست کرتا ہے کہ میں تُو میری سب راہوں میں مُجھے میرے نقصان پہنچانے والوں سے محفوظ رکھ۔

زبور نویس اِس سے پہلے بت سبوح اور حتی اور یاہ کے تجربے میں سے گزر چُکا ہے اور وہ خُدا سے اپنے مُستقبل کے لئے مدد چاہتا ہے۔ وہ خُدا سے دُعا کرتا ہے کہ اب آگے کو تُو میرے سامنے اپنے تمام راستوں کو ہموار کر دے تاکہ میں آئندہ کے لئے جہالت میں رہتے ہوئے کوئی ایسی بات نہ کروں جو تیرے حضور میں گناہ گنا جائے۔ وہ خُدا سے اپنے دل کے لئے پاکیزگی کی دُعا مانگتا ہے۔ کیونکہ وہ اِس حقیقت سے آگاہ ہو گیا ہے کہ گناہ دُکھ کو جنم دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ خُدا اُس کی راہوں کو اِس قدر صاف کر دے کہ وہ کوئی بھی فطری غلطی کو کرنے سے بھی محفوظ رہ سکے۔ جب آپ کا راستہ جس پر آپ چل رہے ہیں وہ تنگ ہوگا تو آپ یقیناً اُس میں زیادہ آزادی سے نہیں چل سکتے ہیں اور آپ کے اِس سفر میں غلطیوں کی گنجائش بہت ہی کم ہوتی ہے۔ جبکہ اِس کے برعکس جب کُشادہ راستے میں آپ کا دھیان ادھر ادھر رہتا ہے تو اِس بات کے امکانات پائے جاتے ہیں کہ آپ سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے جو کہ ایک فطری عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اور اِسی بات کا اندیشہ یہاں پر زبور نویس کو بھی ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ راستے میں ہی کسی خطا یا غلطی میں گر جائے جو کہ اُس کے اِس سفر پر بُری طرح سے اثر انداز ہو۔ درحقیقت وہ اپنے آپ کو کسی گناہ میں گر جانے سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مُشکل قسم کے حالات میں

مُشکل فیصلوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کی صورت حال میں ہم کچھ پریشانی اور کشمکش کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں جب اس طرح کی صورت حال کا سامنا کرتا ہوں تو میں اسے خُدا کے سامنے رکھتا ہوں اور اُس سے اس کے بارے میں مدد مانگتا ہوں۔ میں خُداوند اپنے خُدا سے کچھ طرح سے مخاطب ہوتا ہوں کہ

خُداوند میرے پاک خُدا میں جانتا ہوں کہ میں ہر روز تجھ سے پاک ہونا چاہتا ہوں لیکن آج میں حقیقی معنوں میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تُو مجھے دھو اور پاک کر اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ خُداوند میں اپنی زندگی میں گناہ کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور نہیں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کشمکش کا شکار ہو اور میں تجھ سے دُور ہو جاؤں۔ اور اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ خُداوند میرے پاک خُدا تُو مجھے راستباز بنا۔ تو اس آیت سے مراد عام الفاظ میں یہ لیا جاتا ہے کہ خُداوند تُو مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر چلا جو کہ سادہ الفاظ میں خُداوند کی پیروی کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ وہ یہاں پر یہ درخواست اپنے دُشمنوں کی وجہ سے کر رہا ہے۔ آپ خُداوند اپنے خُدا کے ساتھ اپنے تعلقات میں راست رہنے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ خُدا کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں راست اور بے عیب ہوں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسی بات میں خُداوند کی خُوشی اور اُس کی مرضی پائی جاتی ہے اور یوں آپ خُداوند کی خُوشی کے لئے ایسا

کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر مُعاملہ کُچھ مختلف نوعیت کا ہے اور زبور نویس
یہاں پر خُدا سے یہ سب کُچھ اپنے دُشمنوں کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں ہمیں اِن دُشمنوں کا ذکر بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہ وہ تمام لوگ
ہیں جو کہ یہودی سردار ہیں اور جو اُس کے دُشمنوں کے ساتھ مل کر اُس کے خلاف بغاوت
کرتے ہیں اور وہ تمام لوگ ہیں جو اُس کی آس پاس کی قوموں کے حاکم ہیں جو اُسے شکست
دینے اور اُس پر غالب آنے کے بارے میں ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ اور جب ہم نویں آیت
میں سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اِن تمام لوگوں کے بارے میں کُچھ باتوں کا علم ہوتا ہے
جہاں پر یوں لکھا ہوا ہے:

کیونکہ اُن کے مُنہ میں ذرہ سچائی نہیں۔

اُنکا باطن محض شرارت ہے۔

اُنکا گلا کھلی قبر ہے۔

وہ اپنی زبان سے خُشامد کرتے ہیں۔

یہاں پر داؤد اپنے دُشمنوں کے تعلق سے بات کرتے ہوئے کُچھ ایسی منفی باتوں کا ذکر کرتا ہے

جو اُن میں پائی جاتی ہیں اور خُدا کو پسند نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اُن میں سچائی نہیں پائی

جاتی یعنی وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ شرارت کرتے ہیں اور وہ خُشامدی ہیں۔ آج ہم اِکسیویں

صدی میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور حالات آج بھی بالکل ویسے ہی ہیں۔ یہ تمام باتیں آج

بھی ہماری زندگیوں میں پائی جاتیں ہیں اور آج بھی ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں۔ اور جب ہم نئے عہد نامے میں انہی حالات پر غور کریں تو وہاں پر ہمیں رومیوں ۳ باب کی ۱۳ آیت میں سے یہ الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر یہودی قوم کے بزرگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن میں ان تمام منفی باتوں کا ذکر ہمیں خُدا کے پاک کلام میں سے ملتا ہے۔ یہ وہ یہودی قوم کے بزرگ اور راہنما ہیں جنہیں خُدا نے دولت اور اختیار سے نواز رکھا ہے۔ اور وہ خُدا کی ان برکات کو دُرست معنوں میں استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ یوں یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ بھی جو خُدا کے مُکاشفوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آگاہ ہیں وہ بھی اُس کے حضور میں مجرم نکلے، وہ بھی گناہ گار ہیں اور انہیں بھی نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔

اور پھر اس سے اگلی آیت میں یوں مرقوم ہے:

اے خُدا تُو اُن کو مجرم ٹھہرا

وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں

اُن کو اُن کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے

کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔

یہاں پر وہ خُداوند خُدا کے سامنے روتے ہوئے آہیں بھر بھر کر دُعا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلے

حصے میں ہم غور کیا تھا کہ وہ خُدا سے کہتا ہے کہ خُدا تُو ایسا ایسا نہیں چاہتا ہے اور یہ یہ

باتیں اور اس قسم کے لوگ ہیں جنہیں تیرے حضور میں نہیں ہونا چاہئے اور یہ یہ وہ لوگ
 ہیں جنہیں تو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور وہ یہاں پر اُن تمام لوگوں کے بارے میں ہی خُدا
 سے التجا کرتا ہے کہ خُداوند یہ ہی وہ تمام لوگ ہیں اس لئے اب تو ان کی عدالت کر اور
 انہیں مجرم ٹھہرا۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص مجرم ٹھہرتا ہے تو وہ قانونی طور پر
 سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ خُدا سے منت کرتا ہے کہ اب تو اُن کو مجرم ٹھہراتا کہ وہ قانونی
 طور پر وہ کاٹیں جو انہوں نے بویا ہے۔ وہ یہاں پر خُدا سے اس کے علاوہ کُچھ بھی نہیں مانگ
 رہا ہے کہ وہ اُس کے دُشمنوں کی عدالت کرے اور انہیں اُن کے کئے کی سزا دے۔ مطلب یہ
 کہ انہوں نے جو کُچھ بھی بُرا کیا اور جو کُچھ بھی بُرا سوچا ہے وہ اُن ہی کے اوپر آ پڑے۔
 درحقیقت جب ہم کسی کے بارے میں اس طرح سے سوچتے یا کہتے ہیں یا ہم خُدا سے کسی
 شخص یا گروہ کی عدالت کے لئے کہتے ہیں تو ہم درحقیقت اُس کے لئے لعنت مانگتے ہیں یا ہم
 ایک طرح سے اُس شخص کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامے میں سے
 دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خُداوند یسوع مسیح کی شخصیت میں ہمیں
 کسی بھی دُشمن کے لئے ایسے الفاظ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ بلکہ اُس نے کہا کہ اپنے دُشمنوں
 کے لئے دُعا کرو اور اپنے ستانے والوں کے لئے برکت چاہو۔ اور ہم جانتے ہیں اور خُدا کا پاک
 کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خُداوند یسوع مسیح نے ایسا صرف کہا ہی نہیں بلکہ اُس نے
 اس انوکھی اور عظیم تعلیم کا عملی مظاہرہ اپنی بابرکت زندگی میں سے پیش بھی کیا تھا۔ کیونکہ

ہم جانتے ہیں کہ جب ہم خُدا سے کہتے ہیں کہ وہ کسی شخص یا کسی گروہ کی عدالت کرے تو اس سے مُراد واضح طور پر یہ ہے کہ ہم اُن کے لئے خُدا سے غضب کے لئے کہتے ہیں۔ کیونکہ خُدا جب انسانیت کی عدالت کرے گا تو کوئی بھی اُس کے حضور میں بے گناہ نہیں پایا جائے گا۔

لیکن وہ سب جو بُجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں وہ سدا خُوشی سے للکاریں کیونکہ تُو اُنکی حمایت کرتا ہے۔ اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں بُجھ میں شاد رہیں۔ اور پھر آخری آیت میں یوں مرقوم ہے کہ:

کیونکہ تُو صادق کو برکت بخشیدگا

اے خُداوند! تُو اُسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔

یہاں پر ہمیں خُوشی کا ذکر ملتا ہے لیکن یہ صرف اُن کے بارے میں خواہش کی گئی ہے جنہیں خُدا کی جانب سے تحفظ حاصل ہے۔ شریروں کے بارے میں ہمیں خُوشی کا کوئی ذکر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بلکہ اس کے برعکس لکھا ہے کہ خُداوند تُو اُن کی عدالت کر اور اُن کو مجرم ٹھہرا۔ شریروں کی خُوشی ابدی نہیں ہے اور اُن کی شادمانی میں خُدا کی جانب سے پائیداری شامل نہیں ہے۔

شادمانی سے مُراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ شریر اس سے محروم ہیں بلکہ ایک راستباز شخص کے لئے یہ خُدا کی جانب سے اُس کی محافظت کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ خُدا شریر کو تحفظ فراہم نہیں کرتا ہے اور اُس کے دُشمنوں کے مُقابلے میں اُس کی کُمتک نہیں کرتا ہے۔ صادق اس بات کی بدولت خُدا میں خُوشی مناتا ہے کیونکہ خُدا اُسے اُس کے دُشمنوں سے بچاتا ہے۔ زبور نویس بیان کرتا ہے کہ خُدا اُسے اپنے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔ وہ خُدا کی اپنے لوگوں کے لئے محافظت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ خُدا اپنے لوگوں کو اس طرح محفوظ رکھتا ہے جیسے مُرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے اُسی طرح خُدا بھی اپنے لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ جب کوئی شکاری پرندہ یا کوئی جانور مُرغی کے بچوں پر حملہ کرتا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے ماں کی جانب بھاگتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اُن کی ماں اُن کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لے گی اور وہ وہاں پر اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتے ہیں۔ وہ فوری طور پر چلاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مُرغی اپنے پروں کو اُن کے اوپر پھیلاتی ہے اور اُنہیں اکٹھا کرتے ہوئے اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ یوں وہ بچے اُس شکاری پرندے یا جانور سے محفوظ رہتے ہیں۔ یوں اس خوبصورت مثال کو استعمال میں لاتے ہوئے خُدا کی محبت کو بیان کیا جاتا ہے۔

اور پھر آخری آیت میں یوں مرقوم ہے کہ:

کیونکہ تُو صادق کو برکت بخشیدگا

اے خُداوند! تُو اُسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔

خُداوند اپنے طالب کو اپنی برکات سے نوازتا ہے۔ اِس آیت کے آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خُداوند اپنے خادم کو اپنے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لیتا ہے۔ جب لوگ جنگ کے لئے جاتے تھے تو جنگی لباس میں سے ایک اہم چیز سپر کہلاتی تھی۔ یہ ایک طرح کی چمڑے سے بنی ہوئی چادر ہوتی تھی جسے ایک سورما اپنے سارے جسم پر پہن لیتا تھا۔ اِس کی بدولت جب دُشمن کی تلوار اُس کے جسم کے کسی حصے کے ساتھ ٹکراتی تھی تو وہ اُسے زخمی نہیں کر پاتی تھی اور یوں وہ دُشمن کے حملوں سے محفوظ رہتا تھا۔ خُداوند اپنے لوگوں کے لئے ڈھال اور سپر ہے۔ تو جس طرح سے مُرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے اُسی طرح سے خُداوند اپنے لوگوں کو اپنے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لیتا ہے۔ اِس لئے ہمیشہ اِس بات کو یاد رکھیں اور خُدا کے ڈھال اور اُس کی سپر کے پیچھے رہیں اور اُس میں خُوشی شادمانی سے زندگی بسر کریں۔ خُوشی کے اظہار کا ایک خوبصورت انداز گانا ہے۔ بہت سے لوگ جب خُوش ہوتے ہیں تو وہ گاتے ہیں اور میں جب بہت خُوش ہوتا ہوں تو میں زبور گاتا ہوں۔

زبور ۵ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک دُعا ہی نہیں ہے جسے ہم اپنی پرستش میں خُدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں بلکہ یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم انسانیت کو خُدا کے بغیر دیکھ سکتے ہیں۔ یوں ہم اِس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر خُدا کی جانب سے تحفظ نہ ہو تو انسانیت کی حالت کیا ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان خُدا کے بغیر اپنی زندگی بسر کرتا

ہے تو اُس کے بارے میں یوں لکھا ہوا ہے جیسا کہ ہم نے ۹ آیت میں سے پڑھا ہے کہ خُدا کا بندہ یوں بیان کرتا ہے:

کیونکہ اُن کے مُنہ میں ذرہ سچائی نہیں

اُنکا کا باطن محض شرارت ہے

اُنکا گلا کھلی قبر ہے

وہ اپنی زبان سے خُشامد کرتے ہیں۔

یہ اُن لوگوں میں پائی جانے والی خصوصیات ہیں جو خُدا کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اُن کی بات چیت میں گناہ پایا جاتا تھا۔ اور یہ نہ صرف خُدا کی نظر میں ایک گھنونا گناہ تھا بلکہ یہ انسانیت کے لئے بھی تکلیف کا سبب تھا۔ اِس لئے جب ہم نئے عہد نامے میں مزامیر کا مُطالعہ کرتے ہیں تو یہ صرف خُدا کے حضور میں دُعا کے لئے ہی نہیں ہیں بلکہ اِن کے استعمال سے ہم اپنے آپ کو بھی پرکھ سکتے ہیں۔ اور یوں ہم انہیں اُس وقت میں جب ہم اپنے دُشمنوں کی وجہ سے مُصیبت کا شکار ہوں رہائی اور نجات کے لئے بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض حالات میں ہم خود اپنے سب سے بڑے دُشمن ہوتے ہیں۔ بہت سی مسائل اور مصائب کے آنے کی وجہ ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ اکثر ہم جانتے ہوتے ہوئے بھی کُچھ غلط کاموں کو سرانجام دے دیتے ہیں۔ اِس لئے میں اکثر خُداوند سے منت کرتا ہوں کہ اے خُداوند تُو میری مدد کر کہ میں اِس کام کو نہ کروں،

خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو میری مدد کر کہ میں اپنی زندگی میں صرف اُن کاموں کو ہی سرانجام دوں جن میں تیری کامل مرضی شامل ہو۔ اگرچہ ہم اپنے آپ کو اخلاقی طور پر ہر لحاظ سے کامل نہیں پاسکتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں۔ میں جب بھی جتنے بھی مشکل حالات میں ہوتا ہوں میں خُدا سے ہی دُعا کرتا ہوں اور وہ مجھے جواب دیتا ہے۔ خُدا میری مدد کرتا ہے اور مجھے باہر نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ میرے ذہن میں اُن تمام باتوں کو ڈال دیتا ہے جن کے بارے میں میں اپنی سمجھ سے خیال نہیں کر پاتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ خُدا کی ڈھال اور اُس کی سپر کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی اپنی حفاظت کے مُعلے میں پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ بلکہ اس کے برعکس آپ خداوند میں خوشی اور شادمانی کی زندگی بسر کریں گے اور یہ خوشی اور شادمانی ابدی ہوگی۔ اگرچہ آپ اپنے دُشمنوں کے بارے میں بھی بُرا نہیں چاہتے ہونگے اور آپ اُنہیں برباد کرنا نہیں چاہتے ہونگے۔ تو بھی آپ کو اُن کی جانب سے مخالفت کا سامنا ہوتا ہے اور یہ ہی فرق ہے جو خُدا کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔

اس زبور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خُدا کا بندہ خُدا سے اپنے دُشمنوں کے لئے بربادی مانگتا ہے اور چاہتا ہے کہ خُدا اُن کی عدالت کرے اور اُنہیں سزا دے۔ لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح ہوتے ہیں تو وہ ہمیں تبدیل کرتا ہے اور ہم اسی زبور کی دس اور گیارہ آیت میں دیکھتے ہیں جہاں پر دسویں آیت میں اُنہیں گناہگار ثابت کیا گیا ہے۔ لیکن گیارہویں آیت میں ان کے

تعلق سے بات کی گئی ہے جو اُس میں پناہ لیتے ہیں۔ ہم اِس سے پہلے دُشمنوں میں ہی شمار ہوتے تھے لیکن دسویں سے گیارہویں آیت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خُدا کے بٹے ہمارے خُداوند یسوع مسیح میں سے ہم دھوئے جاتے ہیں اور ہمیں اُس کے فضل کی بدولت نجات عطا کی گئی ہے۔ اور سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ اُس نے ہمیں یہ بالکل مُفت عطا کی ہے۔ اُس نے اِس کے لئے کوئی قیمت نہیں ٹھہرائی یا ایسا نہیں کہا کہ تمہیں فلاں کام کو سرانجام دینا ہوگا تاکہ تم اِس نجات کو حاصل کر سکو۔ بلکہ اُس نے ہر ایک کے لئے اِسے مُفت فراہم کیا تاکہ ہر کوئی اِسے باآسانی حاصل کر سکے اور ابدی زندگی میں داخل ہو سکے۔ اُس نے ہمارے لئے اِس دروازے کو کھول دیا ہے تاکہ ہر کوئی آئے اور بلا روک ٹوک اِس میں داخل ہو جائے۔ آئیے ہم آج کی اِس ساری بات چیت کو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں اور خُدا سے اپنے لئے راہنمائی مانگتے ہیں۔ آئیے ہم دُعا کریں:

خُداوند ہمارے آسمانی باپ ہم تمہ دل سے شکر گزار ہیں اِس خوبصورت آزادی کے لئے جو ہم تجھ میں رکھتے ہیں۔ اِس پناہ اور تحفظ کے لئے کہ تو ہمیں اپنے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لیتا ہے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہماری سپر، ہماری پناہ، ہماری ڈھال ہے اور اِس بات کے لئے کہ تو ہمیں اپنے پروں میں چھپا لیتا تاکہ ہمیں دُشمن سے محفوظ رکھے۔ ہماری زندگیوں میں تیری شمولیت کے لئے اور اِس رسائی کے لئے ہم شکر گزار ہیں کہ ہم صرف تیرے پیارے بٹے خُداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہی اِس نجات تک رسائی

حاصل کر سکتے ہیں۔ خُداوند ہم اپنے آنے والے سارے وقت کے لئے تجھ سے منت کرتے ہیں کہ بخشش ہم اپنے دُشمنوں کو دل سے مُعاف کر سکیں اور تیری مرضی کو اپنی زندگی کے وسیلہ سے پُورا کریں۔ ہمیں سکھا کہ ہم تجھ ہی سے مانگیں اور جس طرح سے ہم نے آج کے زبور میں سے سیکھا ہے ہم تجھ ہی میں شادمانی حاصل کریں اور تیری پناہ میں رہیں۔ ان تمام لوگوں کے لئے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو آج کے دن میں ہمارے ساتھ ہیں اور منت کرتا ہوں کہ تُو انہیں برکت دے اور اپنے نام کے جلال کے استعمال میں لا۔ بخشش کہ ہم تیری خدمت کرتے ہوئے تیرے پیارے بٹے کے کردار کی پیروی کریں۔ ہم یہ سب کچھ اُسی کے وسیلے سے تجھ سے مانگتے ہیں۔ سُن اور اپنے حضور سے ہمیں عطا فرما آمین۔